جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء: از 2014 تا 2018

بہارِ گائیڈ

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضانِ بہارِ مدینہ

یَا اَللّٰہُ عزوجل   بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ   یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ

وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ ﷺ

بہارِ گائیڈ

نام:______________________

ولدیت:____________________

درجہ:_____________________

استاد:_____________________

جامعۃ المدینہ فیضانِ بہارِ مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء از 2014 تا 2018

منطق

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ: ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ/2014ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ پرچہ: دوسرا مضمون: حدیث+منطق

تاریخ: 17-06-2014 دن: منگل وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

۱۴۳۵/2014

نوٹ: حصہ اول سے پہلا، حصہ ثانی سے آخری سوال لازمی ہے جبکہ حصہ اول سے کوئی ایک اور حصہ ثانی سے دو سوال حل کریں۔

حصہ اول: حدیث

سوال نمبر 1: عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امری مانوی فمن کان ھجرتہ الی اللہ ورسولہ فھجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ھجرتہ لدنیا یصیبھا او امراۃ ینکحھا فھجرتہ الی ماھاجر الیہ۔

(الف) حدیث مبارکہ پر اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (8)

(ب) خط کشیدہ الفاظ کے وجوہ اعراب بیان کریں۔ (7)

(ج) ہجرت کی بنیادی 8 اقسام میں سے کوئی 5 بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر 2: (الف) سوالیہ پرچہ میں موجود احادیث کے علاوہ کوئی دو احادیث مع ترجمہ لکھیں۔ (10)

قولہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم (فاخبرنی عن امارتھا قال ان تلد الامۃ ربتھا) الامار والامارۃ بالبات التاء و حذفھا لغتان وروی ربھا و ربتھا قال الاکثرون ھذا اخبار عن کثرۃ السراری واولادھن فان ولدھا من سیدھا بمنزلۃ سیدھا لان مال الانسان صائر الی ولدہ وقیل معناہ الاماء یلدن الملوک فتکون امہ من جملۃ رعیتہ ویحتمل ان یکون المعنی: ان الشخص یستولد الجاریۃ ولدا ویبیعھا فیکبر الولد ویشتری امہ وھذا من اشراط الساعۃ۔

(ب) مذکورہ بالا عبارت کا ترجمہ کریں۔ (5)

مانھیتکم عنہ فاجتنبوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(ج) حدیث مکمل کریں نیز حدیث میں موجود اسم، فعل، حرف الگ الگ کریں۔ (10)

سوال نمبر 3: (الف) مندرجہ ذیل عبارات کا ترجمہ کریں۔ (20)

(1) واعلم ان النیۃ لغۃ: القصد یقال نواک اللہ بخیر: ای قصدک بہ والنیۃ شرعا: قصد الشی مقترنا بفعلہ، نوی قصد وتراخی عنہ فھو عزم، وشرعت النیۃ لتمییز العادۃ من العبادۃ او لتمییز رتب العبادۃ بعضھا عن بعض، مثال الاول: الجلوس فی المسجد قد یقصد للاستراحۃ فی العادۃ، وقد یقصد للعبادۃ بنیۃ الاعتکاف، فالممیز بین العبادۃ والعادۃ ھو النیۃ، وکذلک الغسل: قد یقصد بہ تنظیف البدن فی العادۃ وقد یقصد بہ العبادۃ فالممیز ھو النیۃ۔

(2) دخل رجل علی ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ، فقال لہ: ان کان اللہ تعالی قد تکفل بالرزق فاھتمامک لماذا؟ وان کان الخلف علی اللہ حقا فالبخل لماذا؟ وان کانت الجنۃ حقا فالراحۃ لماذا؟ وان کانت النار حقا فالمعصیۃ لماذا؟ وان کان سوال النکیر حقا فالانس لماذا؟ وان کانت الدنیا فانیۃ فالطمانینۃ لماذا؟ وان کان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وان کان کل شی بقضاء وقدر فالخوف لماذا؟

(ب) احادیث کو مکمل کریں۔ (1)۔۔۔۔۔۔ وازھد فیما عند الناس یحبک الناس۔ (2)۔۔۔۔۔۔ وذلک اضعف الایمان۔ (5)

حصہ ثانی: منطق

سوال نمبر 4: (الف) تناقض کی شرائط کتنی ہیں؟ ہر ایک کی وضاحت مثال دے کر کریں۔ (10)

(ب) عکس مستوی کی تعریف و مثال بیان فرمائیں۔ (5)

سوال نمبر 5: (الف) شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرائط بیان فرمائیں۔ (5)

(ب) قیاس استثنائی کی تعریف و مثال نیز اسکی دو قسموں کی مثال سے وضاحت فرمائیں۔ (10)

سوال نمبر 6: صناعات خمسہ کی تعریفات مع امثلہ بیان فرمائیں۔ (10)

(ب) دلیل لمی و انی کی تعریف و مثال بیان کریں۔ (5)

سوال نمبر 7: مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریفات تحریر کریں کوئی دس۔ (20)

(1) علت (2) تضایف (3) عکس مستوی (4) اصغر (5) اکبر (6) حداوسط

(7) صغری (8) کبری (9) مقیس علیہ (10) مقیس (11) علت مشترکہ (12) حکم

سالانہ امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015　درجہ: ثالثہ　پرچہ: دوسرا　مضمون: منطق+حدیث

تاریخ: 08-06-2015　دن: پیر　وقت: 3 گھنٹے　کل نمبر: 100

نوٹ: حصہ اول اور ثانی سے کوئی پانچ، پانچ سوال حل کریں۔

حصہ اول: حدیث

سوال نمبر1: مندرجہ ذیل عبارت پر مکمل توجہ سے اعراب لگائیں کیونکہ 2 اعرابی اغلاط پر ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ (10)

قوله صلى الله عليه واله وسلم (فهجرته الى ما هاجر اليه) يقتضى انه لا ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة وينبغى حمل الحديث على ما اذا كان المحرك والباعث له على الحج انما هو التجارة فان كان الباعث له الحج فله الثواب والتجارة تبع له الا انه ناقص الاجر عمن اخرج نفسه للحج وان كان الباعث له كليهما فيحتمل حصول الثواب لان هجرته لم تتمحض للدنيا ويحتمل خلافه

سوال نمبر2: **عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا**

مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر3: (الف) مندرجہ ذیل احادیث مکمل فرمائیں۔ (کوئی تین) (6)

(1) مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ..................　(2) لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ..............

(3) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه واله وسلم أَوْصِنِي......　(4) إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ..............

(ب) درج ذیل احادیث میں سے کسی دو کے راوی کے نام تحریر کریں۔ (4)

(1) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله وسلم يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ______

(2) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى______

(3) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ______

سوال نمبر4: **واذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة احوال**

احوال ثلاثہ اربعین کی روشنی میں لکھیں۔ (10)

سوال نمبر5: **ارکان اسلام** کتنے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں حدیث نقل کریں اور کسی ایک کی مختصر تشریح اربعین کی روشنی میں لکھیں۔ (10)

سوال نمبر6: **ایمان** اور **اسلام** کے معنی اور مفہوم اربعین کی روشنی میں لکھیں۔ (10)

حصہ ثانی: منطق

سوال نمبر7: **قضیہ مطلقہ** اور **موجہہ** کی تعریف اور کوئی سے دو بسیط اور دو مرکبہ قضیہ مع مثال تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر8: (الف) کوئی پانچ **بسیطہ** اور پانچ **موکبہ** کے صرف نام تحریر کریں۔ (5)

(ب) **ممکنہ عامہ** اور **ممکنہ خاصہ** میں فرق بیان کریں۔ (5)

سوال نمبر9: **عکس نقیض** کی تعریف کرتے ہوئے **محصورات اربعہ** کا عکس نقیض مع مثال بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر10: **قیاس اقترانی** کی اقسام اور ان کی تعریف مع امثلہ واضح کریں۔ (10)

سوال نمبر11: "ہر شکل میں سولہ **ضروب** کا احتمال ہے" آپ اس جملے کی مکمل تشریح اس طرح فرمائیں کہ ان **سولہ ضروب** کا حصول واضح ہو جائے۔ (10)

سوال نمبر12: شکل اول کی نتیجہ دینے کی شرائط اور **ضروب منتجہ** مثالوں سے بیان کریں۔ (10)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ   پرچہ: ساتواں   مضمون: حدیث + تجوید

تاریخ: 01-06-2016   دن: بدھ   کل وقت: 3 گھنٹے   کل نمبر: 100

نوٹ: سوال نمبر 2 لازمی ہے بقیہ میں سے کوئی ایک سوال حل کریں۔

سوال نمبر 1: عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله ﷺ قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله ویقیموا الصلوة ویؤتوا الزكوة فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی الله تعالی

(الف) اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (15)

(ب) عبادت خوف کے ساتھ افضل ہے یا امید کے ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ کا ذکر کردہ جواب تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 2: (الف) مندرجہ ذیل عبارت کا اردو میں ترجمہ کریں (7)

قال المرزبانی رحمہ اللہ تعالی: یحتاج المصلی الی اربع خصال حتی ترفع صلاته: حضور القلب و شهود العقل و خضوع الارکان و خشوع الجوارح فمن صلی بلا حضور قلب فهو مصل لاه ومن صلی بلا شهود عقل فهو مصل ساه ومن صلی بلا خضوع الارکان فهو مصل جاف ومن صلی بلا خشوع الجوارح فهو مصل خاطئ ومن صلی بهذه الارکان فهو مصل واف

(ب) سوالیہ پیپر میں موجود احادیث کے علاوہ کوئی سی دو احادیث مع ترجمہ و حوالہ تحریر فرمائیں۔ (10)

(ج) اسلام کی بنیاد کے بارے میں حدیث مع ترجمہ کریں۔ (8)

سوال نمبر 3: عن ابی هريرة عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ یقول مانهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه مااستطعتم فانما اهلک الذین من قبلکم کثرة مسائلهم واختلافهم علی انبیاءهم

(الف) اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (8+7=15)

(1) دع مایریبک الی مالا یریبک

(2) من حسن اسلام المرء ترکه مالایعنیه

(ب) مذکورہ بالا احادیث کا اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (10)

نوٹ: 50 نمبر کا پیپر قرآن پاک کا تقریری ہوگا۔ 20 نمبر مدر، 20 نمبر حفظ اور 10 نمبر قواعد کے ہوں گے۔

رول نمبر: ______________

جوابی کاپی نمبر: ______________

سالانہ امتحان1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8سالہ)   پرچہ: آٹھواں   مضمون: حدیث

تاریخ: 17-05-2017   دن: بدھ   کل وقت: 3 گھنٹے   کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے پانچ سوالات حل کریں۔

سوال نمبر 1: شرح اربعین نووی کے شارح کا نام اور حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ (20)

سوال نمبر 2: درج ذیل حدیث کا اردو ترجمہ کریں۔ (20)

عن ابی یعلی شداد بن اوس (رضی اللہ عنہ) عن رسول ﷺ قال انّ اللہ کتب الاحسان علی
شیئٍ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح
ذبیحتہ (مسلم)

سوال نمبر 3: مندرجہ ذیل احادیث میں سے کسی دو احادیث کے راویوں کے نام تحریر کریں۔ (20)

(1) قال رسول ﷺ من احدث فی امرنا ھذا مالیس منہ فھو رد
(2) قال رسول ﷺ من حسن اسلام المرءِ ترکہ مالا یعنیہ
(3) قال رسول ﷺ لا یحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث: الثیّب الزانی والنفس بالنفس،
و التارک لدینہ المفارق للجماعۃ

سوال نمبر 4: ایمان اور اسلام کے معنی اور مفہوم اربعین کی روشنی میں بیان کریں۔ (20)

سوال نمبر 5: واعلم انّ التقدیر اربعۃ (20)

تقدیر کی اقسام اربعہ کی وضاحت اربعین کی روشنی میں کریں۔

سوال نمبر 6: قال رسول ﷺ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ (20)

حدیث کا ترجمہ کرکے مختصر وضاحت کریں۔

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: آٹھواں　　مضمون: حدیث

تاریخ: 30-04-2018　　دن: پیر　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے 5 سوالات حل کریں۔

سوال نمبر 1: (الف) کوئی 5 احادیث مبارکہ (جو سوالیہ پرچہ میں نہ ہوں) راویوں کے نام کے ساتھ تحریر کریں۔ (15)

قال رسول اللہ ﷺ لا ضرر ولا ضرار

(ب) حدیث مبارکہ پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ (05)

سوال نمبر 2: (الف) ایمان اور اسلام کے معنٰی اور مفہوم اربعین کی روشنی میں بیان کریں؟ (15)

قال رسول اللہ ﷺ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردٌّ رواہ البخاری و مسلم

(ب) مذکورہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں۔ (05)

سوال نمبر 3: واعلم ان التقادیر اربعۃ

تقدیر کی اقسام اربعہ کی وضاحت اربعین کی روشنی میں کریں۔ (20)

سوال نمبر 4: (الف) مندرجہ ذیل احادیث میں سے کسی تین احادیث کے راویوں کے نام لکھیں؟ (15)

(1) قال: الدین النصیحۃ قلنا لمن یا رسول اللہ ﷺ؟ قال للہ و لکتابہ و لائمۃ المسلمین وعامتھم رواہ مسلم

(2) دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواہ الترمذی والنسائی

(3) قال رسول اللہ ﷺ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ

(4) لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ رواہ البخاری و مسلم

(ب) مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ کریں۔ (05)

قال رسول اللہ ﷺ لا یحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ رواہ البخاری و مسلم

سوال نمبر 5: قولہ ﷺ فاخبرنی عن اماراتھا

قیامت کی نشانیاں وضاحت کے ساتھ اربعین کی روشنی میں لکھیں۔ (20)

سوال نمبر 6: (الف) مندرجہ ذیل عبارت پر اعراب لگائیں دو اعرابی غلطیوں پر ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ (15)

قولہ ﷺ (وتومن بالقدر خیرہ وشرہ) بفتح الدال و سکونھا لغتان و مذھب اھل الحق اثبات القدر و معناہ انّ اللہ سبحانہ و تعالٰی قدر الاشیاء فی القدم وعلم سبحانہ وتعالٰی انھا ستقع فی اوقات معلومۃ عندہ سبحانہ وتعالٰی و فی امکنۃ معلومۃ و ھی تقع علی حسب ما قدرہ اللہ سبحانہ و تعالٰی

(ب) مذکورہ عبارت کا ترجمہ کریں۔ (05)

رول نمبر:______________

جوابی کاپی نمبر:______________

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ   پرچہ: دوسرا   مضمون: منطق

تاریخ:26-05-2016   دن: جمعرات   کل وقت: 3 گھنٹے   کل نمبر: 100

نوٹ: سوال نمبر پانچ لازمی باقی میں سے کوئی تین حل کریں۔

سوال نمبر 1: (الف) علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض وغایت، حکم کی تعریفات سپرد قلم کریں۔ (8)

(ب) منطق کی حاجت کیوں ہے؟ نیز وضع کی تعریف وضاحت کیساتھ لکھیں۔ (8+4=12)

(ج) جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان کونسی نسبت ہے؟ وضاحت کیساتھ لکھیں۔ (5)

سوال نمبر 2: (الف) متحد المعنی کی اقسام تفصیلاً تحریر کریں۔ (12)

(ب) دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام مع تعریفات وامثلہ بیان کریں۔ (9)

(ج) حقیقت، ماہیت کی تعریف سپرد قلم کریں۔ (4)

سوال نمبر 3: (الف) نسبت عموم خصوص مطلق و نسبت عموم خصوص من وجہ کی وضاحت تحریر کریں۔ (8)

(ب) کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی اقسام سپرد قلم کریں۔ (6)

(ج) خاصہ کی اقسام تفصیل کیساتھ تحریر کریں نیز جنس بعید کی وضاحت لکھیں۔ (6+5=11)

سوال نمبر 4: (الف) قرب وبعد کے اعتبار سے فصل کی اقسام تفصیلاً تحریر کریں۔ (10)

(ب) حمل کی اقسام مع تعریفات وامثلہ تحریر کریں۔ (5)

(ج) مشروطہ خاصہ، منتشرہ مطلقہ، ممکنہ عامہ کی تعریفات مع مثال لکھیں۔ (10)

سوال نمبر 5: (الف) محصورات اربعہ کا عکس مستوی مع امثلہ سپرد قلم کریں۔ (12)

(ب) شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط اور کتنی ضربیں نتیجہ دیتی ہیں؟ مع امثلہ لکھیں۔ (13)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8سالہ)　پرچہ: تیسرا　مضمون: منطق

تاریخ: 10-05-2017　دن: بدھ　کل وقت: 3 گھنٹے　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے پانچ سوالات حل ہے۔

سوال نمبر 1: (الف) علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض وغایت، حکم کی تعریفات تحریر کریں۔ (6+4=10)

(ب) دلالت کی تعریف واقسام بیان کریں نیز وضع کی تعریف بھی کریں۔ (4+6=10)

سوال نمبر 2: (الف) مشترک المعنی کی تعریف مع اقسام وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ (12)

(ب) مرکب کی تعریف اور مرکب کے ثبوت کی شرائط تحریر کریں نیز فعل نحوی اور کلمہ منطقی میں فرق بیان کریں۔ (3+ 5=8)

سوال نمبر 3: (الف) مفہوم اور اس کی اقسام کی تعریفات بیان کریں نیز کلی اور کل میں فرق واضح کریں۔ (4+8=12)

(ب) نسبت تباین اور نسبت عموم خصوص من وجہ کی وضاحت کریں۔ (8)

سوال نمبر 4: (الف) کلی کے افراد خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے اسکی قسمیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ (12)

(ب) واجب الوجود اور ممتنع الوجود سے کیا مراد ہے امثلہ کے ساتھ بیان کریں۔ (8)

سوال نمبر 5: (الف) کلی ذاتی کی تعریف اور اسکی اقسام تفصیلاً تحریر کریں۔ (12)

(ب) فصل قریب اور فصل بعید کی تعریفات مع امثلہ بیان کریں۔ (8)

سوال نمبر 6: (الف) سور کی وضاحت کرتے ہوئے محصورات اربعہ کے سور تحریر کریں۔ (8+2=10)

(ب) قضیہ اور اسکی اقسام کی تعریفات تحریر کریں۔ (8+ 2=10)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　پرچہ: چھٹا　مضمون: منطق

تاریخ: 28-04-2018　دن: ہفتہ　کل وقت: 3 گھنٹے　کل نمبر: 100

نوٹ: کل 4 سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: (الف) **منطق** کی تعریف، موضوع اور غرض وغایت تحریر کریں۔ (10)

(ب) **منطق** کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ (5)

(ج) **علم** کی تعریف اور اقسام تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 2: (الف) **دلالت لفظیہ وضعیہ، مطابقیہ، تضمنیہ،** اور **التزامیہ** کی تعریفات مع امثلہ تحریر کریں۔ (15)

(ب) **مفرد و مرکب** کی تعریفات بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر 3: (الف) **جزئی** اور **کلی** کی تعریفات مع امثلہ بیان کریں۔ (10)

(ب) **نسبت عموم خصوص مطلق** اور **نسبت تساوی** کی تعریفات اور امثلہ تحریر کریں۔ (10)

(ج) **جنس قریب** کی تعریف بیان کریں۔ (05)

سوال نمبر 4: (الف) **مقوم** اور **مقسم** کی وضاحت کریں۔ (10)

(ب) **کلی ذاتی** اور **کلی عرضی** میں کیا فرق ہے؟ (10)

(ج) **لازم ماہیت** کی تعریف بیان کریں۔ (5)

سوال نمبر 5: (الف) مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریفات تحریر کریں۔ (25)

(1) **تصدیق**　(2) **دلالت عقلیہ**　(3) **مشکک**　(4) **جوہر**　(5) **فصل**

ضمنی امتحان۱۴۳۶/2015ء

(شعبة الامتحان والتسجيل جامعات المدينه للبنين دعوت اسلامى)

۱۴۳۶/2015

درجہ: ثانیہ   پرچہ: ساتواں   مضمون: حدیث+منطق

تاریخ: 29-08-2015   دن: ہفتہ   وقت: 3 گھنٹے   کل نمبر: 100

نوٹ: حصہ اول سے کوئی بھی پانچ سوال حل کریں جبکہ حصہ ثانی کا سوال نمبر 1 لازمی ہے اسکے علاوہ مزید کوئی تین سوال حل کریں۔

حصہ اول۔ حدیث:

سوال نمبر 1: **انما الاعمال**" شارح علیہ الرحمہ نے اس مقام پر کتنے احتمال ذکر کیے؟ بیان فرمائیں اور امام اعظم **علیہ الرحمۃ** کا مختار بھی متعین کریں۔ (10)

سوال نمبر 2: عبارت پر نہایت توجہ سے اعراب لگائیں ورنہ 2 اعرابی غلطیوں پر 1 نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ (10)

اعلم ان النية لغة: القصد يقال نواك الله بخير اى قصدك به والنية شرعاً قصد الشئ مقترناً بفعله
فان قصد وتراخى عنه فهو عزم وشرعت النية لتمييز العادة من العبادة او لتمييز رتب العبادة
بعضها من بعض مثال الاول الجلوس فى المسجد قد يقصد للاستراحة فى العادة وقد يقصد للعبادة
بنية الاعتكاف فالمميز بين العبادة والعادة هو النية

سوال نمبر 3: **وطلب الدين ينقسم الى تسعة انواع** "طلب دین کے اعتبار سے ہجرت کی اقسام کے صرف نام لکھیں۔ (10)

سوال نمبر 4: مندرجہ ذیل اجزاء حدیث مکمل فرمائیں۔ (کوئی پانچ) (10)

(1) **قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم** ....
(2) **فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ** ....
(3) **ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ** ....
(4) **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ** ....
(5) **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ** ....
(6) **وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا** .... **وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ** .... **وَلْيُرِحْ** ....

سوال نمبر 5: شرح **اربعین نووی** کے شارح کا نام اور ان کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ (10)

سوال نمبر 6: درج ذیل حدیث کا اردو ترجمہ لکھیں۔ (10)

قَالَ: وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا
يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ
عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

حصہ ثانی: منطق

سوال نمبر 7: مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت فرمائیں۔ (کوئی دس) (20)

ضرب   نتیجه   تناقض   قضیه مطلقه   استقراء   تمثیل
قیاس برهانی   شکل رابع   عکس مستوی   جهت   محصورات اربعه طرفین قضیه

سوال نمبر 8: مندرجہ ذیل قضایا میں سے کسی پانچ کی امثلہ تحریر کریں۔ (10)

مشروطه خاصه   ممکنه خاصه   وقتیه عامه   دائمه مطلقه
مطلقه عامه   ضروریه مطلقه   وجودیه لا ضروریه

سوال نمبر 9: **قضیه شرطیه متصله موجبه** اور **سالبه** کی مثالوں کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ (10)

سوال نمبر 10: (الف) **"بعض الحیوان انسان"** کا عکس مستوی **"بعض الانسان حیوان"** آتا ہے آپ یہ بتائیں کہ حاصل شدہ عکس
صادق ہے یا **کاذب** جبکہ اسمیں بعض انسانوں کو حیوان مانا گیا ہے وجہ بھی تحریر کریں۔ (5)

(ب) مندرجہ ذیل قضیوں کا عکس بتائیں۔ (5)

ہر محنتی کامیاب ہے   کوئی گھوڑا انسان نہیں

سوال نمبر 11: مندرجہ **قضایا موجهه** پر غور وفکر کرنے کے بعد بتائیں ان کا کیا نام ہے؟ (10)

(1) **لاشئ من الكاتب ساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا**   (2) **كل حيوان متنفس بالضرورة وقتاما**

جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء از 2014 تا 2018

ادب

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ: ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ/2014ء

(شعبة الامتحان والتسجيل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ پرچہ: تیسرا مضمون: ادب

تاریخ: 19-06-2014 دن: جمعرات وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

۱۴۳۵/2014

نوٹ: تمام سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: (1) الاقاليم باكستان الاربعة والمناطق الشمالية كلها اجزاء متماسكة للمملكة وهي تعتمد بعضها على البعض على مبادئ الاخوة الاسلامية والشريعة الغراء والتي تضمن الكرامة للبشر جميعا والوحدة لاتباعها المؤمنين الصادقين۔

(2) ولما بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان على مراهقة فآمن برسالته وصدقه وشب على حبه وحب ما ارسل به من الدين القيم فهو ثاني الاسلام من اهل بيته بعد ام المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها وكان قد خاطر بنفسه من اجل الرسول ليلة الهجرة۔

(3) واما المذياع فهو ارخص وسائل الاعلام وابعدها واسهلها وصولا واسعها انتشارا حتى ان الناس الذين يعيشون في المناطق البعيدة التي لا يوجد فيها الكهرباء ولا تصل اليها الجرائد يستطيعون ان يستمعوا الى الاذاعات المحلية۔

کسی دو پیراگراف کا اردو میں ترجمہ کریں۔ (20)

سوال نمبر 2: کوئی پانچ خالی جگہ پر کریں۔ (10)

(1) كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متلطفا......الخلق......الله (2) من يغري الكلب لا يؤمن......الله

(3) كلما ازددنا معرفة......ازددنا......لها۔ (4) توجد كليات......الاسنان وكلية الطب......بلاهور۔

(5) انا اريد......اعرف من امرهم (6) المخترع......عالم......اسمه ماركوني۔

سوال نمبر 3: درج ذیل سوالوں میں سے کسی پانچ کے عربی میں جواب دیں۔ (20)

(1) متى ظهرت باكستان على خريطة العالم؟ (2) ماذا تسمى شركة باكستان الجوية؟ (3) ما هو عدد المسلمين اليوم؟

(4) كيف يخدع الانسان طمعه اللئيم؟ (5) ما هو الحديث القدسي؟ (6) ما معنى وسائل الاعلام؟

(7) متى سرقت ثياب جحا؟

سوال نمبر 4: درج ذیل جملوں میں سے کسی دس کی عربی بنائیں۔ (20)

(1) میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں۔ (2) ہم غیبت نہیں کرتے۔ (3) کل سویرے بازار جائیں گے۔

(4) خاموش آدمی اچھا لگتا ہے۔ (5) ہماری مصنوعات کو عوام نے پسند کیا۔ (6) سندھ کا راجہ داہر قتل ہو گیا۔

(7) پاکستان تعلیم میں پسماندہ ہے۔ (8) اللہ نے ہم پر نماز فرض کی۔ (9) برائی اور گناہ پر تعاون مت کرو۔

(10) کیا آپ کے پاس ریڈیو ہے؟ (11) استاذ کی عزت کرو۔ (12) عید خوشی کا موقع ہے۔

سوال نمبر 5: درج ذیل میں سے کسی پانچ کے جملے عربی میں بنائیں۔ (10)

(1) الفراح (2) القطار (3) بحر (4) دولة اسلامية

(5) اليوم (6) فوز (7) سعادة

سوال نمبر 6: درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر کم از کم 10 سطروں کا مضمون لکھیں۔ (20)

(1) قائد اعظم (2) باكستان (3) ميلاد النبي صلى الله عليه واله وسلم

سالانہ امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015 درجہ: ثانیہ پرچہ: تیسرا مضمون: ادب (مطالعۃ العربیہ)

تاریخ: 09-06-2015 دن: منگل وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے پانچ سوالات حل کریں، نیز جواب میں لکھی جانے والی عربی عبارت پر اعراب لگانا نہ بھولیں۔

سوال نمبر1: (الف) درج ذیل عربی عبارت کا اردو ترجمہ کریں۔ (10)

يُقَالُ إِنَّ قِرْدًا رَأَى نَجَّارًا يَشُقُّ خَشَبَةً وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَيْهَا وَكُلَّمَا شَقَّ مِنْهَا ذِرَاعًا أَدْخَلَ فِيْهَا وَتِدًا فَوَقَفَ الْقِرْدُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَقَدْ أَعْجَبَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ ذَهَبَ النَّجَّارُ لِبَعْضِ شَأْنِهِ فَرَكِبَ الْقِرْدُ الْخَشَبَةَ وَوَجْهُهُ إِلٰى جِهَةِ الْوَتِدِ وَظَهْرُهُ إِلٰى طَرَفِ الْخَشَبَةِ فَتَدَلّٰى ذَنَبُهُ فِي الشَّقِّ وَنَزَعَ الْوَتِدَ فَلَزِمَ الشَّقُّ عَلَيْهِ فَكَادَ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْأَلَمِ

(ب) مندرجہ ذیل جملوں میں سے کسی پانچ کا عربی ترجمہ کریں۔ (10)

(1) ابھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سات سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئیں۔

(2) ہمارے اسکول میں ستر استاد ہیں۔ (3) میرا خیال ہے آج اسکول میں چھٹی ہے۔

(4) اس گھر میں جدید سہولیات موجود ہیں۔ (5) ہم اپنے ہاتھ سے روزی کماتے ہیں۔

(6) تھوڑے الفاظ اور زیادہ معانی والی حدیث کو **جوامع الکلم** کہتے ہیں۔

سوال نمبر2: درج ذیل اشعار کا اردو ترجمہ کریں۔ (20)

(1) وَإِنَّا قَدْ أَتَيْنَاهُمْ بِزَحْفٍ يُحِيْطُ بِسُوْرِ حِصْنِهِمْ صُفُوْفًا
(2) رَئِيْسُهُمُ النَّبِيُّ وَكَانَ صُلْبًا نَقِيَّ الْقَلْبِ مُصْطَبِرًا عَزُوْفًا
(3) رَشِيْدَ الْأَمْرِ ذَا حُكْمٍ وَعِلْمٍ وَحِلْمٍ لَمْ يَكُنْ نَزِقًا خَفِيْفًا
(4) نُطِيْعُ نَبِيَّنَا وَنُطِيْعُ رَبًّا هُوَ الرَّحْمٰنُ كَانَ بِنَا رَؤُوْفًا
(5) فَقَدْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ مُعْتَذِرًا وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَقْبُوْلٌ

سوال نمبر3: مندرجہ ذیل موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عربی میں مضمون لکھیں۔ (20)

مدرستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ

یا

اپنے دوست کو عید کی مبارک باد کا خط عربی میں لکھیں۔

سوال نمبر4: (الف) مندرجہ ذیل مرکبات میں سے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کو الگ کرتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں۔ (10)

الارض الطاهرة ارض الاسلام خريطة العالم دولة اسلامية رئيس الدولة القيادة المخلصة

(ب) مندرجہ ذیل کلمات میں سے مفرد کی جمع اور جمع کی مفرد بنائیں۔ کوئی پانچ (10)

إِخْوَةٌ اسرة رِسَالَةٌ قِرْدٌ طُرُقٌ إِجَازَات هِرَّةٌ

سوال نمبر5: (الف) مندرجہ ذیل جملوں میں پائی جانے والی اغلاط کی نشاندہی کرتے ہوئے درست فرمائیں۔ کوئی پانچ (10)

(1) كانت الكلب عطشان يأكل الثرى ويلهث (2) احس الرجل بالعطش وقد اشتدت وهو يمشى بطريق
(3) جاءوا القوم اجمعا فاطال الجلوس عنده (4) راه الرئيس الحرس فى المنتصف الليل
(5) كان النجار تشق الخشبة وهو راكب عليه (6) كان جحا من عرب الحمقى

(ب) درج ذیل افعال کا فعل ماضی بتائیں۔ (10)

يجلو يزكى يهتدى يخشى يدبر
يخون يحول يرى يلد يجور

سوال نمبر6: درج ذیل عبارت پر غور و فکر کے بعد اعراب لگائیں کیونکہ دو اعرابی اغلاط پر ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ (20)

كان قد بايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عدد من رجال الاوس والخزرج ونسائهما بالعقبتين الاولى والثانية وعاهدوه بانهم سينصرونه ويدافعون عنه فعلمت به قريش فغضبوا ودبروا مؤامرة ليقتلوه فعصمه الله وهاجر الى يثرب

رول نمبر:________________

جوابی کاپی نمبر:________________

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: تیسرا　　مضمون: ادب

تاریخ: 28-05-2016　　دن: ہفتہ　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے چار سوال حل کریں جبکہ سوال نمبر 1 لازمی ہے۔

سوال نمبر 1: (الف) درج ذیل عبارات کا ترجمہ تحریر کریں۔ (10)

كان قد بايع رسول الله ﷺ عدد من رجال الاوس والخزرج ونسائهما بالعقبتين الاولى والثانية وعاهدوه بانهم سيمنعونه ويدافعون عنه فعلمت به قريش فغضبوا ودبروا مؤامرة ليقتلوه فعصمه الله وهاجر الى يثرب مع صاحبه الحفی ورفيقه الوفی ابی بكر الصديق ونزلا بغار ثور واقاما به ثلاثة ايام

(ب) درج ذیل احادیث کا ترجمہ کریں۔ (صرف پانچ) (5×3=15)

(1) ان اطيب ما اكل الرجل من كسب يده۔　　(2) اصلحوا دنياكم واعملوا لاخرتكم كانكم تموتون غدا

(3) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً　　(4) من تواضع لاخيه المسلم رفعه الله ومن ارتفع عليه وضعه الله

(5) من خرج فی طلب العلم فهو فی سبيل الله حتى يرجع　　(6) ان اولى الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا

سوال نمبر 2: (الف) درج ذیل سوالات کے عربی میں جوابات تحریر کریں۔ (5×2=10)

(1) من فطر الخلق البديع؟　　(2) ماذا كان النجار يعمل حين راه القرد؟

(3) من هو اكمل المؤمنين ايماناً؟　　(4) متى كانت غزوة بدر ومن انتصر فيها؟

(5) متى ولد سيدنا علی المرتضى رضی الله عنه؟

(ب) خالی جگہ مکمل کریں۔ (5×3=15)

(1) اهدى ملك جزيرة -----نسوة مسلمات الى-----(2) وادی----جميل وبه-----كثير وفواكه-------

(3) وقد تم اكتشاف النفط والغاز-------　　(4) هذا يدل-----حبك للوطن وذلك-----الايمان

(5) الخمر والميسر رجس من------الشيطان

سوال نمبر 3: (الف) درج ذیل الفاظ میں سے دس کے معانی تحریر کریں۔ (10)

(1) الغبطة　　(2) العليق　　(3) البرتقال　　(4) موضوع　　(5) عاصمة　　(6) نتام

(7) خمر　　(8) فاجر　　(9) البخل　　(10) جائع　　(11) مهم　　(12) اسوة

(ب) درج ذیل الفاظ میں سے پانچ کو جملوں میں استعمال کریں۔ (5×3=15)

(1) المواطن　　(2) الثلج　　(3) الباردة　　(4) انقطاع　　(5) الضلال　　(6) رائع　　(7) جناح

سوال نمبر 4: (الف) عربی میں جوابات تحریر کریں۔ (صرف پانچ) (5×3=15)

(1) آپ ﷺ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔　　(2) اللہ احسان کرنیوالوں کو پسند کرتا ہے۔

(3) کوئی اللہ کی ثنا کا حق ادا نہیں کرسکتا۔　　(4) غار حرا سے علم کی روشنی ہوئی۔

(5) میں نے اول درجے میں سفر کیا۔　　(6) آدمی کو سخت پیاس لگی۔

(ب) رتب الكلمات الآتية۔ عبارت درست کرکے تحریر کریں۔ (5+5=10)

(1) كانت۔ عطشان۔ الثرى۔ الكلب۔ وتلهث۔ يأكل　　(2) النجار۔ الخشبة۔ وهو۔ تشق۔ راكب۔ كان۔ عليه

سوال نمبر 5: (الف) درج ذیل مفردات کے جمع تحریر کریں۔ (10)

رَجُلٌ　　طَرِيْقٌ　　بِئْرٌ　　كَلْبٌ　　مِثَالٌ

فَمٌ　　خُفٌّ　　كَبِدٌ　　أَجْرٌ　　قِرْدٌ

(ب) درج ذیل عبارات پر اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (5×3=15)

(1) كان عدد المجاهدين فی معركة بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتلا

(2) القران كتاب الله وهو يهدينا لبناء الاسرة الاسلامية　　(3) هذه المصنوعات قد نالت اعجاب الناس

رول نمبر: ______________

جوابی کاپی نمبر: ______________

سالانہ امتحان 1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8 سالہ)   پرچہ: ساتواں   مضمون: ادب

تاریخ: 16-05-2017   دن: منگل   کل وقت: 3 گھنٹے   کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے پانچ سوالات حل کریں۔

سوال نمبر 1: درج ذیل پیراگراف میں سے کسی دو کا اردو میں ترجمہ کریں۔ (20)

(1) عارضوا دعوة الرسول معرضة شديدة و آذوه و عذبوا من آمن به من المستضعفين و قاطعوا بني هاشم فأذنَ الرسول للمسلمين بالهجرة الى الحبشة ثم الى المدينة .كان قد بايع رسول الله ﷺ عدد من الرجال الاوس والخزرج و نسائهما بالعقبتين الاولى والثانية و عاهدوه بأنّهم سيمنعونهُ ويدافعون عنه

(2) دخل جحا الحمام فسرقت ثيابه فجعل يقول : انا اعلم انا اعلم واللص يسمعه و ظن انّه قد فطن به فردّها و قال له: انّي سمعتك تقول : اعلم فما الذي تعلم قال : اعلم انه ان عدمتُ ثيابي متُّ من البردِ

(3) پاکستان معناها: الارض الطاهرة و يقصد بها الاسلام والمسلمين و هي دولة اسلامية و اسمها الرسمي جمهورية پاکستان الاسلامية و تحتل پاکستان موقعا جغرافيا واستراتيجيا هاما جداً في منطقةٍ عرفت اخيراً بجنوبِ آسيّا بشبهِ القارةِ قبل ذالک

سوال نمبر 2: درج ذیل سوالوں میں سے پانچ کے عربی میں جواب تحریر کریں۔ (20)

(1) متى ظهرت پاکستان على خريطة العالم؟   (2) ما هو الحديث القدوسى؟

(3) من هو اكمل المومنين ايمانا؟   (4) متى ولد سيدنا على رضى الله عنه؟

(5) ماذا يستفيد حامد من جواميسه و بقراته؟   (6) من هو اول الناس ايمانا و اسلامًا؟

سوال نمبر 3: درج ذیل جملوں میں سے پانچ کی عربی بنائیں۔ (20)

(1) حکمت بہت بڑی بھلائی ہے   (2) ہمارے گھر میں آٹھ کمرے ہیں۔

(3) غار حرا سے علم کی روشنی پھوٹی۔   (4) مجھے پانچ سو روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال کریں۔

(5) بڑھئی نے بندر کو بہت مارا۔   (6) مجھے مور اور اس کا ناچ بہت پسند آیا۔

سوال نمبر 4: (الف) درج ذیل میں سے کسی پانچ کو جملوں میں استعمال کریں۔ (10)

اليوم   الخشية   المولد   دولة اسلامية   الاجير   الضلال   فوز

(ب) مندرجہ ذیل کلمات میں سے صرف پانچ کے مفرد کی جمع اور جمع کی مفرد بنائیں۔ (10)

عدو   حدائق   فواحش   اخلاق   عمل   طريق   اسرة

سوال نمبر 5: درج ذیل الفاظ میں سے دس کے معانی تحریر کریں۔ (20)

سحاب   الكهرباء   عديل   الخصاصة   شقيق   نموذجيّة

انقطاع   اقاليم   مجد   شط   الثلج   ضريح

سوال نمبر 6: درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر کم از کم دس سطروں کا عربی میں مضمون تحریر کریں۔ (20)

مولد الرسول ﷺ   ابو بكر صديق رضى الله عنه

رول نمبر:______________

جوابی کاپی نمبر:______________

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: ساتواں　　مضمون: ادب

تاریخ: 29-04-2018　　دن: اتوار　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی 5 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ تمام کے نمبر مساوی ہیں۔

سوال نمبر 1: (الف) کوئی 5 عبارات کا ترجمہ کریں ہر ایک عبارت کے 4 نمبر ہیں۔ (20)

(1) مَنْ يُؤتَ الحكمةَ فقد أُوْتِيَ خيراً كثيراً

(2) وُلِدَ سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ بشعب بني ہاشم بمكةَ المكرمةِ فِي صبيحةِ يومَ الاثنين الثانى عشر من ربيعِ الاولِ

(3) فِي صفِّنا ستونَ طالبةً وأَمّا عددُ الطالبات بمدرستنا فهو يزيدُ على الفِ طالبةٍ

(4) نَستفيد منها الحليبَ الذى نشربُهُ ونصنعُ منهُ القِشدةَ والزُبدةَ والسمن البلديَّ

(5) وأَنْتهِزُ هٰذِهِ الفُرصةَ لِاعبّرَ لكُمْ عَنْ عواطفِ حبي ولكُمْ اطيبُ التحيَّات

(6) اول الناسِ اسلامًا وايمانًا بهٖ هي اُم المؤمنين خديجةُ ومن الرجالِ ابوُ بكر ومن الصِبيان عليٌّ

سوال نمبر 2: کوئی 5 جملوں کی عربی بنائیں ہر ایک جملہ کے 4 نمبر ہیں۔ (20)

(1) آپ علیہ السلام صادق وامین کے لقب سے مشہور تھے۔　　(2) ہم نے لاہور کی بادشاہی مسجد دیکھی۔

(3) رسول اللہ ﷺ ہمارے رہنما ہیں۔　　(4) اللہ کا شکر ادا کرو۔

(5) بڑھئی نے بندر کو بہت مارا۔　　(6) ہمارا یہ پیریڈ ہر موضوع کے لیے کھلا ہے۔

سوال نمبر 3: 5 سوالات کے عربی میں جوابات دیں ہر جواب کے 4 نمبر ہیں۔ (20)

(1) متٰى اسلمَ ابوُ بكر رضي الله عنه؟　　(2) أينَ يسكُنُ عبدُ اللهِ وأينَ يسكُنُ صديقُه عبدُ الخالقِ؟

(3) مَاذَا قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ عن حُبِّ الوطنِ؟

(4) ماهِيَ علاماتُ النفاقِ الاربعةُ التى وردتْ فى الحديثِ الثانِي من الدرس؟

(5) متٰى كانتْ غزوةُ بدرٍ ومَنْ اِنْتصرَ فِيْها؟　　(6) فِيْ بيتِ مَنْ رُبِّيَ عليٌّ المُرتضٰى كرم الله وجهه؟

سوال نمبر 4: خالی جگہیں پر کریں کوئی 5 . ہر کوئی ایک کے 4 نمبر ہیں۔

(1) الخمرُ والميسِرُ رجسٌ مِنْ____ الشيطان۔　　(2) قَدْ قرأنَا____ كثيرةً عَنْ وطنِنا____ باكستانَ فأَحْبَبنا

(3) كَانَ رسولُ اللهِ لقّبَ علياً بِابِي____　　(4) كان محمد بن القاسم قد فَتَحَ بلادَ____ وملتانَ

(5) أنَا اُرِيدُ____ أعرِفَ مَنْ اخترعهُ　　(6) طلبَتْ البنتُ مِنْ والدِها خمسَ____ رُوبيةٍ

سوال نمبر 5: (الف) کوئی سے 5 مفردات کے جملہ بنائیں ہر ایک جملہ کے 2 نمبر ہیں۔ (10)

(1) بَيْتٌ　(2) بِلَادُنَا　(3) سُوْقٌ　(4) محمد بن قاسم　(5) سُكَّانٌ　(6) الحديثُ القُدْسِيُّ

(ب) کوئی سے دس افعال ماضیہ کے مضارع بتائیں۔ (10)

(1) عَمِلَ　(2) جَلَسَ　(3) اِطَّلَعَ　(4) وَصَلَ　(5) ذَهَبَ　(6) ظَهَرَ

(7) صَدَّقَ　(8) تَلَقّٰى　(9) خَانَ　(10) خَاطَرَ　(11) دَخَلَ　(12) خَصَّصَ

سوال نمبر 6: ترجمہ کریں۔ (10)

(الف): يامَنْ يَرٰى مافِى الضميرِ ويَسْمَعُ　　انتَ المعدُّ لكلِّ مايتوقَّعُ

يامَنْ يُرْجٰى لِلشدائد كلِّهَا　　يامَنْ اليه المُشْتَكٰى والمفزَعُ

يامَنْ خزائنُ رزقِهٖ فِي قول كُنْ　　اُمْنُنْ فَاِنَّ الخيرَ عندكَ اَجْمَعُ

(ب): اَقَامَ محمدُ بن القاسم بِمَدِيْنَةِ شِيْرَازَ اَيَّاماً حَتّٰى وافَاهُ الحجّاجُ بِمَا اَعَدَّ لهُ ثُمَّ اتَّجَهَ مُحَمَّدٌ اِلٰى مَكْرَانَ وَمِنْ هُنَاكَ اِلٰى بَنْبُوْرَ فَفَتَحَهَا ثُمَّ وَصَلَ اِلٰى دَيْبَلَ حَيْثُ وافَتْهُ السُّفُنُ الّتِي كَانَتْ تَحْمِلُ الجُنُوْدَ وَالسِّلَاحَ (10)

ضمنی امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: چوتھا　　مضمون: ادب (المطالعۃ العربیۃ)

تاریخ: 25-08-2015　　دن: منگل　　وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے پانچ سوالات حل کریں نیز جواب میں لکھی جانے والی عربی عبارت پر اعراب لگانا نہ بھولیں۔

سوال نمبر 1: (الف) درج ذیل عربی عبارت کا اردو ترجمہ کریں۔ (20)

یا فاطمۃ: سوف نشتری لک بدلۃ من القماش الفاخر واحذیۃ فاخرۃ ایضا وانا ساشتری لنفسی بدلۃ من السروال والقمیص والصدرۃ بالاضافۃ الی الجزمۃ اللامعۃ ویمکن لنا ان نشتری الحوائج الازمۃ للشھر القادم من الدقیق والسمن والزیت والصابون وغیر ذلک لان النقود متوفرۃ

سوال نمبر 2: درج ذیل اشعار میں سے کسی چار کا ترجمہ کریں۔ (20)

ومن یجعل المعروف دون عرضہ　　یفرہ ومن لا یتق الشتم یشتم
ومن یجعل المعروف فی غیر اھلہ　　یکن حمدہ ذما علیہ ویندم
یا فاطر الخلق البدیع وکافلا　　رزق الجمیع سحاب جودک ھاطل
یا من یری ما فی الضمیر ویسمع　　انت المعد لکل ما یتوقع
مالی سوی قرعی لبابک حیلۃ　　فلئن رددت فای باب اقرع

سوال نمبر 3: مندرجہ ذیل جملوں میں سے کسی پانچ کے سوال اس طرح تحریر کریں کہ یہ جملہ اس کا جواب قرار پائے۔ (20)

(1) کانت باکستان تضم جناحین　　(2) انفصلت باکستان الشرقیۃ بالمؤامرۃ الدولیۃ والتدخل الھندوکی
(3) عاصمۃ باکستان الجدیدۃ ھی مدینۃ اسلام آباد (4) کانت مدۃ خلافتہ سنتین وثلاثۃ اشھر واحد عشر یوما
(5) بویع علی رضی اللہ عنہ بالخلافۃ یوم استشھد الخلیفۃ الراشد الثالث
(6) وھب ابوبکر صدیق للاسلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کل ما کان لدیہ

سوال نمبر 4: مندرجہ ذیل ماضی کے صیغوں کو مضارع میں تبدیل کرکے جملوں میں استعمال کریں۔ (کوئی پانچ) (20)

ھدی　　رمی　　التقی　　تفکر　　قام　　اکتسب

سوال نمبر 5: مندرجہ ذیل جملوں کا عربی ترجمہ کریں۔ (کوئی چار) (20)

(1) پاکستان براعظم ایشیاء میں ہے۔　　(2) برادر ملک ایران کا دارالحکومت طہران ہے۔
(3) حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا۔　　(4) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ رسول ہیں۔
(5) وزیر اعظم سربراہ حکومت ہوتا ہے۔

سوال نمبر 6: مندرجہ آنے والے کلمات کے مجموعے میں سے کسی چار کو ترتیب دیکر مکمل با معنی جملہ بنائیں۔ (20)

(1) الطائرۃ، مصنعھا، الارض، باکستان
(2) الاسلامیۃ، باکستان، جمھوریۃ، الرسمی، اسمھا، و
(3) التی، ھی، کشمیر، لباکستان، جزء، مھم
(4) السیارات، الحرارات، باکستان، ان، تصنع، و
(5) الحدید، الصلب، بکراتشی، و، منھا، بالذکر، خص، مصنع، و

جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء از 2014 تا 2018

صرف

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ: ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ/2014ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ پرچہ: چھٹا مضمون: صرف

تاریخ: 23-06-2014 بروز: پیر وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

۱۴۳۵/2014

نوٹ: کل 5 سوالات کا حل مطلوب ہے جبکہ سوال نمبر 6 لازمی ہے۔

سوال نمبر 1: **ان الصرف یحتاج فى معرفة الاوزان الى سبعة ابواب ـــــ واشتقاق تسعة اشياء**

(الف) مندرجہ بالا عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ (6)

(ب) ابواب سبعہ اور اشیاء تسعہ سے کیا مراد ہے؟ ان کے نام تحریر فرمائیں۔ (8)

(ج) اشتقاق کی اقسامِ ثلاثہ کے نام اور تعریفات سپردِ قلم کریں۔ (6)

سوال نمبر 2: **وقال الكوفيون يعنى ان يكون الفعل اصلا لان اعلال المصدر لاعلال المصدر وجودا وعدما.**

(الف) عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ (4)

(ب) **وجودا** اور **عدما** سے کیا مراد ہے؟ امثلہ کے ساتھ وضاحت کریں۔ (6)

(ج) فعل کے اصل ہونے پر کوفیوں کے دلائل اور صاحب مراح الارواح کی جانب سے ان کا رد سپردِ قلم کریں۔ (10)

سوال نمبر 3: (الف) ثلاثی مجرد کے کون کون سے ابواب دعائم میں داخل ہیں؟ وجہ بھی تحریر کریں۔ (8)

وقد جاء فعل يفعل على لغة كدتُّ تكاد هى شاذا كفضل يفضل ومتّ تموت۔

(ب) مندرجہ بالا عبارت میں اعتراض وجواب کی وضاحت کریں۔ (7)

ومصدر غير الثلاثى يجئ على سنن واحد۔

(ج) غیر ثلاثی سے کیا مراد ہے؟ اور سنن واحد کیا ہے؟ (5)

سوال نمبر 4: **المرفوع المتصل يستتر فى خمسة مواضع۔**

(الف) **مواضع خمسة** کی تفصیل مع امثلہ نقل کریں۔ (7)

(ب) **تضربين** کی یاء کے بارے میں اخفش اور جمہور کا اختلاف سپردِ قلم کریں۔ (6)

(ج) **ضربتم** کی اصل تعلیل کے ساتھ بیان کریں۔ (7)

سوال نمبر 5: (الف) فعل مضارع کے معرب ہونے، اور امر کے مبنی ہونے کی وجہ تفصیلاً نقل کریں۔ (8)

(ب) اسم فاعل کا مشتق منہ بیان کرتے ہوئے اسم فاعل بنانے کا طریقہ تفصیلاً نقل کریں۔ (8)

(ج) **لام امر** کو کسرہ کیوں دیا گیا؟ نیز **لام امر** ساکن کب ہوتا ہے؟ (4)

سوال نمبر 6: (الف) خالی جگہ پر کریں۔ (10)

(1) **الضرب الاثنين فى الثلاثة حتى ـــــ ستة** (2) **تضربين** کا فاعل عند الاخفش ـــــ ہے۔ (4) **ماذا** اسم فاعل کی اصل ـــــ ہے۔

(4) **الفعل** میں ضمیر کو مستتر رکھنا ـــــ ہے (5) **الجزم فى الافعال ـــــ فى الاسماء**

(ب) درست جوابات کی نشاندہی فرمائیں۔ (10)

(1) صیغہ امر بنتا ہے۔ (ماضی سے) (مضارع سے) (اسم فاعل سے)

(2) اسم مفعول مشتق ہوتا ہے۔ (ماضی معروف سے) (اسم فاعل سے) (مضارع مجہول سے)

(3) ضربت میں فاء کی حرکت۔ (اصلی) (سکون کے حکم میں) (عارضی)

(4) ضمیرِ متصل پر عطف کرنا جائز ہے۔ (بغیر تاکید کے) (تاکید کے ساتھ)

() دو حرفوں کا اجتماع کتنی اقسام پر ہے؟ (5 اقسام) (3 اقسام) (7 اقسام)

سالانہ امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: چھٹا　　مضمون: صرف

تاریخ: 13-06-2015　　دن: ہفتہ　　وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

کوئی سے چار سوال حل کریں۔

سوال نمبر 1 : **اعلم ان الصرف یحتاج الی معرفة الاوزان الی سبعة ابواب ــــــ و اشتقاق تسعة اشیاء من کل مصدر**

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں اور ابواب سبعہ و اشیاء تسعہ سپرد قلم کریں۔ (10)

(ب) اشتقاق کا معنی بیان کریں نیز اشتقاق کی اقسام ثلاثہ بیان کریں۔ (10)

ومصدر غیر الثلاثی یجی علی سنن واحد

(ج) غیر ثلاثی سے کیا مراد ہے؟ نیز سنن واحد کیا ہے۔ (05)

سوال نمبر 2 : (الف) ثلاثی مجرد کے کون سے ابواب کو دعائم الابواب کہا جاتا ہے؟ وجہ زینت قرطاس کریں۔ (05)

وامار کن یرکن وابی یابی فمن اللغات المتداخلة شاذ

(ب) عبارت بالا میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے آپ اعتراض مع جواب تفصیلا بیان کریں۔ (10)

(ج) ثلاثی مزید فیہ کے بارہ ابواب کے نام تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 3 : (الف) مستقبل کو مضارع کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ کن کن اسماء کے مشابہ ہے؟ (10)

(ب) مضارع بنانے کیلئے ماضی میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے؟ مع وجہ بیان کریں۔ (05)

وتحذف التاء الثانیة فی مثل تتقلد و تتباعد و تتصعد لاجتماع الحرفین من جنس واحد و عدم امکان الادغام و حذفت الثانیة لان الاولی علامة و العلامة لا تحذف

(ج) مذکورہ عبارت بالا میں دو دعوے ہیں انہیں واضح کریں نیز دلیل کی نشاندہی بھی کریں۔ (10)

سوال نمبر 4 : **وسوی بین المخاطب و الغائبة فی مثل تضرب انت و تضرب ھی**

(الف) مخاطب اور غائبہ سے کیا مراد ہے؟ اور ان کا صیغہ ایک جیسا کیوں ہے؟ تفصیلا بیان کریں۔ (10)

(ب) امر بناتے وقت ہمزہ وصلی لانے کی ضرورت بیان کریں نیز ہمزہ امر مکسور کب ہوگا اور مضموم کب ہوگا؟ (8)

(ج) اسم فاعل کی تعریف کریں اور اس کا مشتق منہ مع وجہ اشتقاق نقل کریں۔ (7)

سوال نمبر 5 : (الف) **مدغم** اور **مدغم فیہ** ایک حرف ہے یا دو؟ تفصیلا بیان کریں۔ (10)

(ب) **اطّلب** کی اصل بیان کرتے ہوئے بتائیں ادغام واجب ہے یا جائز؟ وجہ تحریر فرمائیں۔ (8)

(ج) **مہموز** کی اقسام ثلاثہ مع امثلہ نقل فرمائیں۔ (7)

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: چھٹا　　مضمون: صرف

تاریخ: 31-05-2016　　دن: منگل　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

نوٹ: سوال نمبر1 لازمی ہے جبکہ بقیہ میں سے کوئی سے تین سوال حل کریں۔

سوال نمبر1: (الف) اوزان کی معرفت میں صرفی کتنے او کون کون سے ابواب کی طرف محتاج ہوتے ہیں؟ (5)

(ب) مصدر سے کتنی اور کون کون سی اشیاء مشتق ہوتی ہیں نیز بتائیں کہ مصنف نے اپنی کتاب مراح کو کتنے ابواب میں جمع کیا؟ (5+5)

(ج) صحیح کی تعریف کرتے ہوئے بتائیں کہ صرفیوں نے وزن کے لیے فاء، عین اور لام کو ہی خاص کیوں کیا؟ (5+5)

سوال نمبر2: (الف) اشتقاق کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں نیز بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک اشتقاق میں اصل کیا ہے؟ بالدلیل تحریر کریں۔ (7+8)

(ب) ثلاثی مجرد کے ابواب تحریر کرتے ہوئے بتائیں کہ ام الابواب کونسے ابواب ہیں؟ وجہ بھی تحریر کریں نیز بتائیں کہ کن ابواب کا تعلق لغات متداخلہ اور کن کا لغاتِ بنی طئی سے ہے؟ (5+5)

سوال نمبر3: (الف) امر کی تعریف کرتے ہوئے اس کا مشتق منہ مع الدلیل تحریر کریں۔ نیز دلیل کے ساتھ یہ بھی تحریر کریں کہ امر میں لام کو زائد کیوں کیا اور اسے کسرہ کیوں دیا گیا؟ (5+5)

(ب) اِدَّانَ، اِذَّکَرَ، اِزَّانَ اصل میں کیا تھے اور ان میں کیا تعلیل ہوئی مراح کی روشنی میں دلیل کے ساتھ تحریر کریں۔ (5+5+5)

سوال نمبر4: (الف) مضاعف کا دوسرا نام تحریر کرتے ہوئے بتائیں کہ اسے صحیح کیوں نہیں کہا جاتا نیز بتائیں کہ مضاعف کن ابواب سے کثیر اور کس باب سے قلیل آتا ہے؟ (3+3+2+2)

(ب) اسم فاعل کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بنانے کا طریقہ تحریر کریں نیز صفت مشبہ کے پانچ اوزان مع امثلہ تحریر کریں۔ (10+5)

سوال نمبر5: (الف) درج ذیل الفاظ میں سے کسی پانچ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کونسے صیغے ہیں۔ (5×3=15)

اُسْکِنَتْ	تَدُلُّ	عُيِّنَتْ	يَبْتَدِئُ
لايَجُوْزُ	قَرُّوْا	اُدْخُلْ	

(ب) درج ذیل مصادر میں سے کسی دو کی صرف کبیر لکھیں۔ (10)

ضَرْبٌ　　رَمْیٌ　　دَعْوَةٌ

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8 سالہ)　　پرچہ: چھٹا　　مضمون: صرف

تاریخ: 15-05-2017　　دن: پیر　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے چار سوالات حل کریں۔

سوال نمبر 1: فجمعت فیہ کتابا موسوما بمراح الارواح، و هو للصبی جناح النجاح و راح رحراح و فی معدتہ حین
راح مثل تفاح او راح

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ (10)

(ب) فاء، عین، لام کو وزن کے لئے کیوں خاص کیا گیا؟ (5)

(ج) اشتقاق کی تعریف کریں اور اشتقاق ثلاثہ میں سے مصنف کے ہاں کون سا مراد ہے؟ (10)

سوال نمبر 2: و هو اصل فی الاشتقاق عند البصریین

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں نیز مرجع ھو کی نشاندہی کریں۔ (10)

(ب) مصدر کے اصل ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بصریوں اور کوفیوں کے دلائل بیان کریں۔ (10)

(ج) وجودا او عدما سے کیا مراد ہے امثلہ کے ساتھ بیان کریں۔ (5)

سوال نمبر 3: (الف) فعل ماضی کو مبنی اور مضارع کو معرب کیوں بنایا گیا؟ دونوں کے وجوہات تفصیل سے بیان کریں۔ (10)

(ب) ضَرَبُوا میں ما قبل واؤ کو ضمہ اور رَمَوا میں فتحہ کیوں دیا گیا؟ نیز ضَرَبُوا کے آخر میں الف کیوں بڑھایا گیا؟ (15)

سوال نمبر 4: و استتر فی المرفوع دون المنصوب و المجرور

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں نیز مرفوع میں ضمیر مستتر ہونے کی وجہ بیان کریں۔ (15)

(ب) فان قیل لم زیدت النون فی نضرب (5)

مذکورہ عبارت میں بیان شدہ سوال کا جواب تحریر کریں۔

(ج) و عند البصریین مبنی لان الاصل فی الافعال البناءُ (5)

مذکورہ عبارت کا اس انداز میں تشریح کریں کہ مسئلہ واضح ہو جائے۔

سوال نمبر 5: و یجی افعل لتفضیل الفاعل من الثلاثی غیر مزید فیہ مما لیس بلون ولا عیب

(الف) مندرجہ بالا عبارت کا ترجمہ کریں نیز اسم تفضیل لون و عیب اور مزید فیہ سے أفْعَلُ کے وزن پر کیوں نہیں آتا۔ (10)

(ب) اسم مفعول کی تعریف کریں نیز اسم مفعول کس فعل سے مشتق کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ (9)

(ج) واجتماع الحرفین علی ثلاثۃ اضرب

اجتماع حرفین کی تینوں قسموں کی تعریفات مع امثلہ بیان کریں۔ (6)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ   پرچہ: دوسرا   مضمون: صرف

تاریخ: 23-04-2018   دن: پیر   کل وقت: 3 گھنٹے   کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے 4 سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر1: اعلم اسعدک اللہ تعالٰی ان الصراف یحتاج فی معرفۃ الاوزان الی سبعۃ ابواب الصحیح والمضاعف و المهموز والمثال والاجوف والناقص واللفیف۔ (10)

(الف) عبارت مذکورہ پر اعراب لگا کر ترجمہ و تشریح سپرد قلم کریں۔

(ب) اشتقاق کی تعریف کرتے ہوئے اسکی اقسام کی تعریفات مع امثلہ تحریر کریں۔ (8)

قلنا فی جوابهم اعلال المصدر للمشاكلة لا للمدارية

(ج) عبارت مذکورہ کی تشریح اس انداز میں کریں کہ غرضِ مصنف واضح ہو جائے۔ (7)

سوال نمبر2: (الف) والافعال التی تشتق من المصدر مصدر سے کتنے اور کون کون سے افعال مشتق ہوتے ہیں؟ (12)

(ب) ضمیروں کو وضع کرنے کی وجوہات تحریر کرتے ہوئے بتائیں کہ ضَرَبْتُنَّ کے نون کو مشدد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ (4+4)

(ج) مهموز الفاء (ثلاثی مجرد) سے آنے والے ابواب امثلہ کے ساتھ سپرد قلم کریں۔ (5)

سوال نمبر3: ومن ثم لا یقال بالتاء حتی لا یجتمع علامتا التانیث والیاء فی تضربین ضمیر الفاعل کما مر واذا دخل لم ینتقل معناه الی الماضی. لانها مشابهة بکلمة الشرط

(الف) عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ و تشریح اس انداز میں کریں کہ غرض مصنف واضح ہو جائے۔ (13)

(ب) بِسْمِ اللّٰهِ کے اسم کا الف حذف، اور اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ کے اسم کا الف ذکر کیوں ہے؟ (6)

(ج) مضارع کو مضارع کہنے کی وجوہات سپرد قلم کریں۔ (6)

سوال نمبر4: (الف) مضاعف کے کون کون سے ابواب قلیل الاستعمال اور کون کون سے کثیر الاستعمال ہیں؟ (10)

ویجوز الادغام اذا وقع قبل تاء الافتعال من حروف اتثدذ سشص ضطظوی نحو اتخذ وهو شاذ. ونحو اتجر. ونحو اثار بالثاء یجوز فیه اتار بالتاء لان التاء والثاء من المهموسة

(ب) عبارت پر اعراب لگا کر تشریح سپرد قلم کریں۔ (10)

(ج) اسم فاعل کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسم فاعل کو اسم فاعل کہنے کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ (5)

سوال نمبر5: (الف) اسم مفعول کی تعریف، وجہ تسمیہ اور ثلاثی مجرد و غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ سپرد قلم کریں۔ (8+7)

(ب) تتقلد، تتباعد کے تاء کو حذف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو پہلی تاء کو حذف کریں یا دوسری یا پھر دونوں میں سے کسی کو؟ بہر صورت وجہ تحریر کریں۔ (6)

(ج) حروف اتین کا الف واحد متکلم کے لئے ہی کیوں موضوع ہے؟ (4)

ضمنی امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015 درجہ: ثانیہ پرچہ: چھٹا مضمون: صرف

تاریخ: 27-08-2015 دن: جمعرات وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

کوئی سے چار سوال حل کریں۔

سوال نمبر 1 :(الف) فعل اصل ہے یا مصدر؟ کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ (12)

(ب) **فان قیل لم اختص الفاء والعین واللام للوزن قلنا حتی یکون فیہ من حروف الشفۃ والوسط والحلق شیء**

اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (6)

ومصدر الثلاثی کثیر

(ج) سیبویہ کے نزدیک مصادر ثلاثی کتنے ہیں؟ نیز اسم فاعل و مفعول کے وزن پر ایک ایک مصدر تحریر کریں۔ (7)

سوال نمبر 2: **انما بنی الماضی لفوات موجب الاعراب وعلی الحرکۃ لمشابہتہ الاسم فی وقوعہ صفۃ للنکرۃ نحو مررت برجل ضرب وضارب**

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ اور تشریح زینت قرطاس کریں۔ (10)

اسکنت الباء فی مثل ضربن

(ب) ضربن میں باء کے سکون کی وجہ بیان کرتے ہوئے ضربت وزیدہ کے عدم جواز کی وجہ نقل کریں۔ (8)

(ج) ضربن میں نون کو مشدد لانے کی وجہ تحریر کریں۔ (7)

سوال نمبر 3 : **وتدخل المضمرات فی الماضی واخواتہ وھی ترتقی الی ستین نوعا**

(الف) ضمائر کی ساٹھ اقسام کی تقسیم کاری بیان کریں۔ (10)

والمرفوع المتصل یستتر فی خمسۃ مواضع

(ب) مواضع خمسہ بیان کریں۔ (5)

(ج) حروف مضارع کون سے ابواب میں مفتوح اور کون سے ابواب میں مضموم ہوتے ہیں؟ مع وجہ بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر 4: **وحکم الخفیفۃ مثل حکم الثقیلۃ الا انہ لا یدخل بعد الالفین لاجتماع الساکنین فی غیر حدہ**

(الف) اعراب لگائیں ترجمہ لکھیں نیز تشریح بھی کریں ۔ (10)

وکلتاھما تدخلان فی سبعۃ مواضع لوجود معنی الطلب فیھا

(ب) تدخلان کا فاعل بتاتے ہوئے مواضع سبعہ تحریر فرمائیں۔ (8)

(ج) اسم مفعول کی تعریف کرتے ہوئے اس کا مشتق منہ مع وجہ اشتقاق بیان کریں۔ (7)

سوال نمبر 5 :(الف) ادغام کی تعریف سپرد قلم کریں نیز یہ بھی بتائیں کہ مضاعف کتنے اور کون سے ابواب سے آتا ہے؟ (8)

واجتماع الحرفین علی ثلثۃ اضرب

(ب) اقسام ثلثہ تفصیل سے نقل کریں۔ (12)

(ج) مہموز کو صحیح کہنا درست ہے یا غلط؟ بہر صورت وجہ تحریر کریں۔ (5)

جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء از 2014 تا 2018

نحو

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ: ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ/2014ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: چوتھا　　مضمون: نحو

تاریخ: 21-06-2014　　دن: ہفتہ　　وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

۱۴۳۵/2014

نوٹ: 4 سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: (الف) **تنازع فعلین** کی تعریف اور اس کی اقسام مع امثلہ بیان کیجیے نیز یہ بتائیں کہ اس میں کوفیوں اور بصریوں کا مذہب مختار کیا ہے؟ (2+2+4+4)

(ب) مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف اور اسکی شرط مع امثلہ تحریر کریں۔ (2+5)

(ج) حروف **مشبہ بالفعل** کی خبر کو ان کے اسم سے مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مع امثلہ بیان کریں۔ (6)

سوال نمبر 2: (الف) **مفعول لہ** کی تعریف لکھیں اور **مفعول لہ** کے بارے میں زجاج کا مذہب بیان کریں۔ (10)

(ب)) مفعول معہ کی تعریف تحریر کریں نیز یہ بتائیں کہ کون سی صورتوں میں عطف متعین ہوگا؟ کن صورتوں میں **مفعول معہ** بنانا متعین ہوگا؟ اور کونسی صورتوں میں دونوں کی ترکیبیں جائز ہونگی؟ (4+4+4+3)

سوال نمبر 3: (الف) **اسم مبنی** کی تعریف تحریر کریں نیز یہ بتائیں کہ وہ کونسا مبنی ہے جو **بالقوۃ** معرب ہوتا ہے؟ (3+5)

(ب) **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں یہ بتائیں کہ کون کون سی صورتوں میں کوئی اسم **مبنی الاصل** کے مشابہ ہوتا ہے؟ (6)

(ج) اسم **ضمیر** کی تعریف بیان کریں نیز یہ بتائیں کہ کون کونسی صورتوں میں **ضمیر منفصل** کا استعمال جائز ہے؟ (6+5)

سوال نمبر 4: (الف) فعل ماضی اور فعل مضارع کی تعریف بیان کریں نیز **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں یہ بھی بتائیں کہ فعل ماضی کس کس صورت میں کس کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ (6+3+3)

(ب) **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں یہ بتائیں کہ فعل مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ (8)

(ج) شرط و جزاء پر جزم واجب ہونے اور نہ ہونے کا قاعدہ بیان کریں۔ (5)

سوال 5 (الف) اَن کتنے اور کون کون سے مقامات میں مقدر ہوتا ہے؟ مثالوں سے تحریر کریں۔ (9)

(ب) وہ مقامات بیان کریں جہاں **ھمزہ استفھامیہ** کا دخول تو جائز ہے مگر **ھل** کا دخول جائز نہیں؟ (9)

(ج) اسم تفضیل کے استعمال کی صورتیں مع امثلہ لکھیں۔ (5)

وقد جاء للمفعول قلیلاً

(د) اسم تفضیل مفعول کے لیے آتا ہے، کوئی سی دو مثالیں لکھیں۔ (2)

سالانہ امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

مضمون: نحو　　پرچہ: پانچواں　　درجہ: ثانیہ　　۱۴۳۶/2015

کل نمبر: 100　　وقت: 3 گھنٹے　　دن: جمعرات　　تاریخ: 11-06-2015

نوٹ: پانچ سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

سوال نمبر1: (الف) فعل کو مذکر یا مونث لانے اور اسی طرح اسے واحد، تثنیہ یا جمع لانے کا مکمل قاعدہ **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں تحریر کریں مثالیں ضرور دیں۔ (10)

(ب) **مبتدا** اور **خبر** میں سے ہر ایک کی جامع اور مانع تعریف سپرد قلم کریں۔ (10)

سوال نمبر2: (الف) **مفعول بہ** کی جامع اور مانع تعریف لکھیں نیز بتائیں کہ مفعول بہ کے فعل ناصب کو کتنی اور کون کونسی جگہوں میں حذف کرنا واجب ہے، صرف تعداد، نام اور ایک ایک مثال لکھیں۔ (10)

(ب) **واؤ** کے بعد آنے والے اسم کو کس صورت میں معطوف بنانا متعین ہے؟ کس صورت میں **مفعول معہ** بنانا متعین ہے؟ اور کس صورت میں دونوں امر جائز ہیں؟ (10)

سوال نمبر3: (الف) **صفت حقیقی** اور **صفت سببی** کی تعریف لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ کتنی اور کون کونسی چیزوں میں ان دونوں کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ (10)

(ب) **صفت** کے فوائد **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں مع امثلہ تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر4: (الف) **اسم فعل** کی تعریف بیان کریں نیز بتائیں کہ **فعال** کے وزن پر آنے والا اسم کس کس معنی میں آتا ہے؟ (10)

(ب) کن صورتوں میں ضمیر متصل کا استعمال متعذر ہوتا ہے؟ مثالوں کے ساتھ بیان کریں نیز بتائیں کہ فصل کسے کہتے ہیں؟ (10)

سوال نمبر5: **اسمائے کنایہ کم خبریہ** اور **کم استفہامیہ** کی تعریف مع امثلہ ذکر فرمائیں۔ (10)

(ب) کن صورتوں میں کم مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتا ہے؟ اس کے رفع، نصب اور جر کی وجوہات بھی قلم بند کریں۔ (10)

سوال نمبر6: (الف) **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں فعل ماضی، مضارع اور امر کی تعریف لکھیں نیز بتائیں کہ فعل ماضی کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ اور فعل مضارع معرب کیوں ہوتا ہے؟ (10)

(ب) **افعال ناقصہ** کی تعریف بیان کریں نیز بتائیں کہ کان کتنے معانی میں آتا ہے؟ ہر ایک کی مثال بھی ذکر کریں۔ (10)

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: پانچواں　　مضمون: نحو

تاریخ: 30-05-2016　　دن: پیر　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

نوٹ: آخری سوال لازمی ہے بقیہ میں سے تین حل کریں۔

سوال نمبر 1: (الف) فاعل کے ظاہر اور ضمیر ہونے کے اعتبار سے فعل کی صورتیں تحریر کریں۔ (10)

(ب) فاعل پر مفعول کی تقدیم کب جائز ہے؟ تحریر کریں۔ (5)

(ج) مبتدا اور خبر کا عامل تحریر کریں نیز مبتدا اور خبر کی اصل لکھیں۔ (5)

(د) درج ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ (5)

(1) فی الدار زید　　(2) ماقائم زید

سوال نمبر 2: (الف) خبر کی اقسام تفصیلاً مع امثلہ تحریر کریں۔ (12)

خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم

(ب) عبارت پر اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (5)

وقد یحذف الفعل لقیام قرینة جوازاً ووجوباً سماعاً

(ج) اس عبارت کی مکمل وضاحت آخر تک ہدایۃ النحو کی روشنی میں مثالیں دے کر کریں۔ (8)

سوال نمبر 3: (الف) درج ذیل اصطلاحات کی تعریفات سپرد قلم کریں۔ (15)

(1) مفعول مطلق　　(2) مفعول فیه　　(3) تمییز

(4) مفعول مالم یسم فاعله　　(5) مستثنی

(ب) مستثنی کی اقسام تعریفات و امثلہ کیساتھ تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 4: (الف) مستثنی کا اعراب تفصیلاً سپرد قلم کریں۔ (15)

(ب) اضافت کی اقسام تعریفات و امثلہ کیساتھ لکھیں۔ (10)

سوال نمبر 5: (الف) عطف بیان کی تعریف مع مثال لکھیں۔ (5)

(ب) مبنی کی انواع کے نام اور ان کی ایک ایک مثال لکھیں۔ (8)

الموصول اسم لایصلح ان یکون جزء تاماً من جملة الا بصلة بعده والصلة جملة خبریة ولا بد من عائد فیها یعود الی الموصول

(ج) ترجمہ کریں اور مثال سے وضاحت کریں۔ (6)

ما رائیت رجلا احسن فی عینه الکحل منه فی عین زید

(د) اس مثال کی وضاحت کریں۔ (6)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8 سالہ)　پرچہ: پانچواں　مضمون: نحو

تاریخ: 14-05-2017　دن: اتوار　کل وقت: 3 گھنٹے　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے چار سوالات حل کریں۔

سوال نمبر 1: (الف) مرفوعات اور منصوبات کتنے ہیں؟ پانچ پانچ تحریر کریں۔ (10)

(ب) حروف ندا کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نیز منادی کی پانچ اقسام اور اعراب تحریر کریں۔ (15)

سوال نمبر 2: (الف) حال کی تعریف کریں نیز پانچ قواعد امثلہ کے ساتھ تحریر کریں۔ (10+3)

(ب) تنازع فعلان سے کیا مراد ہے؟ اسکی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ امثلہ بھی تحریر کریں۔ (12)

سوال نمبر 3: (الف) صفت کی اقسام کی تعریفات کریں نیز ان میں کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے تفصیل کے ساتھ تحریر کریں۔ (10)

(ب) بدل کی تعریف کریں نیز بدل کی اقسام اربعہ مع امثلہ بیان کریں۔ (12+3)

سوال نمبر 4: (الف) مبتدا کی قسم ثانی کسے کہتے ہیں؟ اسکی شرائط مع امثلہ بیان کریں۔ (10)

(ب) افعال ناقصہ کون سے ہیں؟ ان کا عمل تحریر کریں۔ (5)

(ج) صفت کے فوائد ہدایۃ النحو کی روشنی میں بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر 5: (الف) افعال مدح وذم تحریر کریں نیز ان کے فاعل کی صورتیں بیان کریں۔ (10)

(ب) مفعول لہ کی تعریف لکھیں اور مفعول لہ کے بارے میں زجاج کا مذہب بیان کریں۔ (10)

(ج) اسماء اصوات کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ (5)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: پانچواں　　مضمون: نحو

تاریخ: 26-04-2018　　دن: جمعرات　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے 4 سوالات حل کریں۔

سوال نمبر1: (الف) وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور نحو قعدت جلوسا عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے تشریح سپرد قلم کریں۔ (9)

(ب) صفت لگانے کے فوائد امثلہ کے ساتھ تحریر کریں۔ (9)

(ج) مفعول لہٗ کی تعریف عربی میں تحریر کرتے ہوئے بتائیں کہ مفعول لہٗ کے متعلق امام زجاج کی کیا رائے ہے؟ (7)

سوال نمبر2: والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز ان کان المعطوف علیہ مجرورًا مقدمًا والمعطوف کذالک

(الف) اس عبارت کی تشریح اس انداز میں فرمائیں کہ اس مسئلہ کے حوالے سے کتاب میں موجود دیگر مذاہب بھی واضح ہو جائیں۔ (18)

(ب) ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے کیا مراد ہے؟ مثال کے ساتھ واضح کریں۔ (7)

سوال نمبر3: فی اصناف اعراب الفعل وھی اربعۃ

(الف) فعل کے اعراب کی اقسام اربعہ بالتفصیل امثلہ کے ساتھ تحریر کریں۔ (20)

(ب) حروف استفہام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ امثلہ کے ساتھ تحریر کریں۔ (5)

سوال نمبر4: (الف) اسم مقصور سے تثنیہ بنانے کا طریقہ تفصیلاً تحریر کریں۔ (12)

(ب) معرفہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے معرفہ کی اقسام کے نام مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔ (8)

(ج) کون کون سے اسماء اعداد کی تمیز تذکیر وتانیث میں مخالفِ قیاس ہوتی ہے؟ (5)

سوال نمبر5: (الف) افعال قلوب کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہ افعال عمل کیا کرتے ہیں؟ اور ان کے خواص کیا ہیں؟ (10)

(ب) واو قسمیہ، تاء قسمیہ اور باقسمیہ کے استعمال میں فرق امثلہ کے ساتھ تحریر کریں۔ (10)

(ج) کنایات کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسماء کنایات تحریر کریں۔ (5)

ضمنی امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: پہلا　　مضمون: نحو

تاریخ: 22-08-2015　　دن: ہفتہ　　وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: پانچ سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

سوال نمبر 1: (الف) اسمائے مرفوعہ کی تعداد، نام اور ہر ایک کی کم از کم ایک ایک مثال لکھیں۔ (10)

(ب) **فاعل** کی جامع مانع تعریف مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر 2: (الف) **التمییز** کی تعریف اور اقسام لکھیں نیز بتائیں کہ مقدار میں کون کونسی چیزیں داخل ہیں؟ (10)

(ب) **مستثنی** کو منصوب لانے کی صورتیں مع امثلہ بیان کریں۔ (10)

سوال نمبر 3: (الف) **اضافت لفظیہ** اور **معنویہ** کی تعریفیں اور ان اضافتوں کے فوائد مع امثلہ بیان کریں۔ (10)

(ب) **یائے متکلم** کی طرف مضاف اسم، صحیح، جاری مجری صحیح یا اسم مقصور ہو یا اس کے آخر میں یاء ساکن

ماقبل مکسور یا واؤ ساکن ماقبل مضموم ہو تو اسے کس طرح لائیں گے۔ (10)

سوال نمبر 4: (الف) **اسم مبنی** کی جامع مانع تعریف لکھیں اور **اسمائے مبنیہ** کے نام تحریر کریں۔ (10)

(ب) **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں ظروف مبنیہ تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 5: (الف) **ھدایۃ النحو** کی روشنی میں مثنیٰ کی تعریف لکھیں نیز اسم **مقصور** اور اسم **ممدود** سے تثنیہ بنانے

کا قاعدہ مع امثلہ تحریر کریں۔ (10)

(ب) **مجموع** کی تعریف لکھیں نیز اسم منقوص اور اسم مقصور سے جمع مذکر سالم بنانے کا اصول مع امثلہ تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 6: (الف) **فعل مضارع مرفوع، منصوب** اور **مجزوم** کا عامل کیا ہوتا ہے؟ (10)

(ب) کتنے اور کون کونسے فعلوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ (10)

جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء از 2014 تا 2018

فقہ

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ: ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ/2014ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ پرچہ: پہلا مضمون: فقہ

تاریخ: 16-06-2014 دن: پیر وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

۱۴۳۵/2014

نوٹ: سوال نمبر 6 لازمی ہے بقیہ سے چار سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: (الف) عمداً تارک نماز کو کیا سزا دی جائے گی؟ نور الایضاح کی روشنی میں تحریر کریں۔ (6)

(ب) جس کو دعائے قنوت اچھی طرح نہ آتی ہو وہ اس کی جگہ پر کن کن ادعیہ کو پڑھے گا بمعہ ترجمہ **نور الایضاح** کی روشنی میں تحریر کریں۔ (10)

(ج) درج ذیل عبارت کا ترجمہ کریں۔ (4)

یتنفل راکبا خارج المصر مومیا الی ای جهة توجهت دابته وبنی بنزوله لا رکوبه ولو کان بالنوافل الراتبة وعن ابی حنیفة رحمه الله انه ینزل لسنة الفجر لانها آکد من غیرها۔

سوال نمبر 2: (الف) نماز وتر کے کوئی پانچ احکام تحریر کریں۔ (5)

اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرة ثلاثة ایام من اقصر ایام السنة بسیر وسط مع الاستراحات والوسط سیر الابل ومشی الاقدام فی البر وفی الجبل بما یناسبه وفی البحر اعتدال الریح فیقصر الفرض الرباعی من نوی السفر ولو کان عاصیا بسفره اذا جاوز بیوت مقامه وجاوز ایضا ما اتصل به من فنائه وان انفصل الفناء بمزرعة او قدر غلوة لا یشترط مجاوزته والفناء المکان المعد لمصالح البلد کرکض الدواب ودفن الموتی۔

(ب) مذکورہ عبارت کا ترجمہ کریں۔ (8)

(ج) مریض کس صورت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا اشارے سے نماز ادا کرے گا؟ **نور الایضاح** کی روشنی میں بیان کریں۔ (7)

سوال نمبر 3: (الف) **سجدۂ سہو** کن کن صورتوں میں ساقط ہو جاتا ہے؟ (5)

(ب) آیات سجدہ کتنی اور کون کونسی سورتوں میں آئی ہیں نام تحریر کریں۔ (15)

سوال نمبر 4: (الف) خطبہ کی سنتیں تحریر کریں کوئی سولہ (16)۔ (16)

(ب) دوران خطبہ کون کونسے اعمال مکروہ قرار دیئے گئے ہیں۔ (4)

سوال نمبر 5: (الف) سجدہ شکر کے بارے میں آئمہ احناف کے اقوال بیان فرمائیں۔ (5)

(ب) **صلوٰۃ الخوف** کا مفصل طریقہ تحریر کریں۔ (10)

(ج) **نماز استسقاء** کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ (5)

سوال نمبر 6: درست کی نشاندہی کریں۔ (20)

(I) روزہ دار کے لئے مکروہ قرار دی گئی ہیں۔	(i) 9 اشیاء	(ii) 6 اشیاء	(iii) 7 اشیاء
(II) روزے کو بغیر کفارے کے فاسد کر دیتی ہیں۔	(i) 52 چیزیں	(ii) 42 چیزیں	(iii) 32 چیزیں
(III) وہ چیزیں جو روزے کو فاسد نہیں کرتیں۔	(i) 25 چیزیں	(ii) 24 چیزیں	(iii) 26 چیزیں
(IV) جمعہ کے درست ہونے کے لئے شرط ہیں۔	(i) 8 چیزیں	(ii) 9 چیزیں	(iii) 6 چیزیں
(V) سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔	(i) تالی پر	(ii) تالی و سامع پر	(iii) سامع پر

سالانہ امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015

درجہ: ثانیہ پرچہ: پہلا مضمون: فقہ

تاریخ: 07-06-2015 دن: اتوار وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

کوئی سے چار سوال حل کریں۔

سوال نمبر 1 : **الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة ويقرأ في كل ركعة منه**

(الف) عبارت پر اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں نیز وتر کی ادائیگی کا طریقہ لکھیں۔ (2+2+6=10)

(ب) 1۔ امام دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے اب یاد آنے پر کیا کرے گا؟ (3)

2۔ امام دعائے قنوت کے بغیر ہی رکوع میں چلا جائے مقتدی کے لئے کیا حکم ہے؟ (3)

3۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت کیساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تحریر کریں۔ (3)

4۔ "**ولا تجوز فيها الا بايماء اذا قار والمربوطة في لجة البحر**" ترجمہ کریں۔ (3)

5۔ کون سی نماز ہے جو غیر کعبہ کی طرف پڑھی جائے تو ہو جائے گی؟ (3)

سوال نمبر 2: **الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق**

(الف) اعراب لگائیں ترجمہ کریں۔ (6)

(ب) کتنی چیزوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے؟ وضاحت کے ساتھ تحریر کریں۔ (8)

(ج) سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے فوراً نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ آیت سجدہ والی سورتوں کے نام تحریر کریں۔ (7+2+2)

سوال نمبر 3: (الف) نماز جمعہ کی فرضیت کی شرائط تحریر کریں اور نماز جمعہ کی صحت کی شرائط لکھیں۔ (15)

(ب) **صلوۃ الخوف** کب پڑھی جائے گی؟ اسکا طریقہ تحریر کریں۔ (10)

سوال نمبر 4 : (الف) نماز جنازہ کے پڑھنے کا حکم اور اس کے ارکان اور شرائط لکھیں۔ (15)

(ب) **زیارۃ القبور** کا حکم قلمبند کریں نیز قبور کے بارے کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ تحریر کریں۔ (7+3)

سوال نمبر 5: (الف) روزے کی (6) اقسام مع وضاحت تحریر کریں۔ (15)

(ب) جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کتنی ہیں؟ کوئی دس تحریر کریں۔ (10)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: پہلا　　مضمون: فقہ

تاریخ:25-05-2016　　دن: بدھ　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: چار سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر1: لایکرہ لہ شد الوسط ولا تقلد بسیف ونحوہ اذا لم یشتغل بحرکتہ ولا عدم ادخال یدیہ

فی فرجیہ وشقہ علی المختار

(الف) عبارت کا ترجمہ کریں۔ (5)

(ب) نمازی کے لیے کون کون سی چیزیں مکروہ نہیں؟ کوئی چھ عبارت کے علاوہ تحریر کریں۔ (6)

(ج) وتر کا حکم اور معنی تحریر کریں نیز رمضان میں وتر جماعت سے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز سواری پر نفل نماز کا حکم لکھیں۔

کون کون سی نماز سواری پر نہیں ہو سکتی؟ (5+3+3+3=14)

سوال نمبر2: (الف) تراویح جماعت سے پڑھنے کا حکم لکھیں نیز تراویح رات میں کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ (6)

صح فرض و نفل و کذا فوقہا وان لم یتخذ سترۃ لکنہ مکروہ لاساءۃ الادب باستعلائہ علیہا

(ب) عبارت پر اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (5)

(ج) کعبہ میں نماز پڑھنے کی تفصیل لکھیں کب درست ہوگی اور کب نہ ہوگی؟ (8)

(د) شرعی سفر کی مقدار لکھیں نیز تخفیف کس کس چیز میں ہوگی؟ (6)

سوال نمبر3: (الف) سجدۂ تلاوت کا سبب اور حکم تحریر کریں۔ (4)

(ب) جمعہ کی صحت کی شرائط سپرد قلم کریں۔ (3)

(ج) اذان اول کے بعد ہونے والی بیع کا حکم لکھیں۔ (3)

(د) خطبہ میں حاضرین کے لیے کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ (3)

(د) عید الفطر میں کتنی چیزیں مستحب ہیں کوئی پانچ تحریر کریں۔ (5)

(ہ) صلوۃ الخوف کب پڑھی جائے گی طریقہ لکھیں۔ (7)

سوال نمبر4: یسن توجیہ المحتضر علی یمینہ وجاز الاستلقاء وترفع راسہ قلیلا ویلقن بذکر الشہادۃ عندہ

من غیر الحاح ولا یؤمر بہا

(الف) ترجمہ کریں۔ (5)

(ب) مرد اور عورت کا کفن سنت تحریر کریں نیز کفن پہنانے کا طریقہ لکھیں۔ (10)

(ج) کن کن روزوں میں رات کو نیت کرنا ضروری ہے کن میں نہیں ہے؟ (5)

(د) کس پر روزے کی قضاء ہے؟ اس کی شرائط لکھیں۔ (5)

سوال نمبر5: (الف) نماز جنازہ کے ارکان اور شرائط سپرد قلم کریں۔ (8)

(ب) مردوں اور عورتوں کے لیے زیارت قبور کا کیا حکم ہے؟ (3)

(ج) صوم کا معنی تحریر کریں۔ (2)

ینقسم الصوم الی ستۃ اقسام

(د) روزے کی اقسام ستہ مع تفصیل تحریر کریں۔ (12)

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8 سالہ) پرچہ: دوسرا مضمون: فقہ

تاریخ: 09-05-2017 دن: منگل کل وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

نوٹ: کوئی سے چار سوالات حل کریں۔

سوال نمبر 1: اذا ظن مرورہ یستحب لہ ان یغرز سترۃ

(الف) سترہ کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے نیز اسکی مقدار اور رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ (12)

(ب) سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ رکعتیں اوقات کے اعتبار سے تفصیلاً تحریر کریں۔ (6)

(ج) کعبۃ اللہ کے اندر اور چھت پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے نیز کعبہ میں کس صورت میں نماز صحیح نہ ہوگی؟ (3+4)

سوال نمبر 2: اذا تعذر علی المریض کل القیام

(الف) مریض کس صورت میں کھڑا ہو کر اور کس صورت میں بیٹھ کر اور کس صورت میں اشاروں سے نماز ادا کرے گا؟ نور الایضاح کی روشنی میں بیان کریں۔ (12)

(ب) حیلہ اسقاط کا طریقہ نور الایضاح کی روشنی میں بیان کریں۔ (8)

(ج) کتنی چیزوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے؟ وضاحت کے ساتھ زیب قرطاس کریں۔ (5)

سوال نمبر 3: (الف) سجدہ سہو کن کن صورتوں میں ساقط ہو جاتا ہے؟ (6)

(ب) آیات سجدہ کتنی ہیں اور کون کون کی سورتوں میں آئی ہیں؟ نام تحریر کریں۔ (14+1)

(ج) دوران خطبہ کون کون سے اعمال مکروہ قرار دیئے گئے ہیں؟ بیان کریں۔ (4)

سوال نمبر 4: (الف) عید الفطر میں کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ پانچ تحریر کریں۔ (5+1)

(ب) نماز جنازہ پڑھنے کا حکم اور اسکے ارکان اور شرائط بیان کریں۔ (15)

(ج) مَردوں اور عورتوں کے لئے زیارت قبر کا کیا حکم ہے؟ تحریر کریں۔ (4)

سوال نمبر 5: ینقسم الصوم الی ستۃ اقسام

(الف) روزے کی اقسام ستہ مع تفصیل تحریر کریں۔ (12)

(ب) جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا وہ کتنی ہیں؟ کوئی چار بیان کریں۔ (4+2)

(ج) جن چیزوں سے روزہ بغیر کفارے کے فاسد ہو جاتا ہے وہ کتنی ہیں؟ کوئی سے چار تحریر کریں۔ (4+3)

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　پرچہ: چوتھا　مضمون: فقہ

تاریخ: 25-04-2018　دن: بدھ　کل وقت: 3 گھنٹے　کل نمبر: 100

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

نوٹ: کل 4 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

سوال نمبر 1: یتنفل راکبا خارج المصر مومیا الی ای جهة توجهت دابته

(الف) عبارت کو اعراب سے مزین کرتے ہوئے ترجمہ تحریر کیجئے۔ (10=5+5)

لا یصح علی الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات کالوتر والمنذور وما شرع فیه نفلا فافسده

(ب) عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے وضاحت قلمبند کیجئے۔ (15=10+5)

سوال نمبر 2: اذا تعذر علی المریض کل القیام ـــــــ صلی قاعدا برکوع وسجود

(الف) عبارت مذکورہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیجئے کہ مصلی رکوع و سجود پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسکی نماز کا کیا حکم ہے؟ (6=4+2)

(ب) صاحبِ نورالایضاح کے حالات سپرد قلم کریں۔ (10)

یسقط (الترتیب) بأحد ثلاثة اشیاء

(ج) صاحب ترتیب سے ترتیب ساقط ہونے کی تینوں صورتیں بیان کیجئے۔ (9=3+3+3)

سوال نمبر 3: یسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام فی الفجر واحمرارها فی العصر و بوجود ما یمنع البناء بعد السلام

(الف) مذکورہ عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے وضاحت قلمبند کیجئے۔ (10=1+3+3+3)

صلاة الجمعة فرض عین علی من اجتمع فیه سبعة شرائط

(ب) عبارت مذکورہ کا ترجمہ کرتے ہوئے نورالایضاح کی روشنی میں جمعہ کی شرائط تحریر کیجئے۔ (8=1+7)

(ج) مرد کا کفن سنت اور عورت کا کفن کفایہ بیان کیجئے۔ (7=7x1)

سوال نمبر 4: ینقسم الصوم الی ستة اقسام

(الف) اقسام ستہ کی وضاحت کیجئے۔ (12=6x2)

(ب) زکوٰۃ کے لغوی و اصطلاحی معنیٰ بیان کیجئے۔ (6=2+4)

کره للصائم سبعة اشیاء

(ج) سات اشیاء بیان کیجئے۔ (7=7x1)

سوال نمبر 5: (الف) مندرجہ ذیل 5 اصطلاحات کی وضاحت کیجئے۔ (25)

(1) لاحق　(2) مسبوق　(3) وطن اصلی　(4) وطن اقامت

(5) نصف صاع　(6) تحیة المسجد　(7) تحیة الوضو　(8) لَحد

ضمنی امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

۱۴۳۶/2015 درجہ: ثانیہ پرچہ: پانچواں مضمون: فقہ

تاریخ:26-08-2015 دن: بدھ وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

کوئی سے چار سوال حل کریں۔

سوال نمبر1: **سنن مؤكدة**

(الف) سنت مؤکدہ تحریر کریں نیز **تحية المسجد** کسے کہتے ہیں کب پڑھی جائے گی؟ (10)

وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء ان تعب بلا كراهة وان كان بغير عذر كره على الاظهر لاساءة الادب

(ب) عبارت کا ترجمہ کریں اور مسئلہ کی وضاحت کریں۔ (10)

(ج) تراویح اور جماعت تراویح کا حکم لکھیں۔ (5)

سوال نمبر2: (الف) کون کون سی نماز اور چیزیں ہیں جو سواری پر ادا نہیں ہو سکتی۔ (10)

(ب) کعبہ میں اور کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کا حکم تحریر کریں۔ (10)

(ج) شرعی سفر کی مقدار تحریر کریں اور نماز کب شروع ہو گی۔ (5)

سوال نمبر3: (الف) مریض بیٹھ کر کب نماز پڑھے گا اور اشارے سے کب پڑھے گا اور کیسے پڑھے گا؟ (10)

اذا مات المريض ولم يقدر على الصلوة بالايماء لا يلزمه الايصاء بها (10)

(ب) اعراب لگائیں اور عبارت کا ترجمہ کریں اور نماز اور روزے کا فدیہ تحریر کریں۔

(ج) کون سی سنتیں ہیں جو فرض نماز شروع ہونے کے بعد بھی پڑھے گا اور کب تک؟ (5)

سوال نمبر4: **يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وان تكرر وان كان تركه عمدا اثم ووجب اعادة الصلوة لجبر نقصها**

(الف) عبارت پر اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ (10)

(ب) **سہو** کے دو سجدے کب کریں گے **سجدہ سہو** کب کب ساقط ہو جاتا ہے؟ (10)

(ج) **سجدہ شکر** کا امام ابو حنیفہ **علیہ رحمۃ** اور صاحبین کے نزدیک کیا حکم ہے؟ (5)

سوال نمبر5: (الف) **میت** کو غسل دینے کا طریقہ تحریر کریں۔ (10)

(ب) میت کا بوسہ لینے کا حکم کیا ہے؟ (3)

(ج) غسل دینے کے بعد اگر گندگی نکلتی ہے تو غسل کا کیا حکم ہے؟ (3)

(د) میت مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ تحریر کریں۔ (3)

(ح) میت پر نماز جنازہ کب پڑھی جائے گی؟ (3)

(و) **شہید** کس کو کہتے ہیں؟ تحریر کریں۔ (3)

جامعۃ المدینہ پاکستان کے نصاب کے مطابق

برائے طلباء از 2014 تا 2018

خصوصی پرچہ

غیر حل شدہ پرچہ جات

درجہ: ثانیہ

پیشکش

جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ (اورنگی ٹاؤن)

سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ/2014ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ پرچہ: پانچواں مضمون: حل عبارت

تاریخ: 22-06-2014 دن: اتوار وقت: 3 گھنٹے کل نمبر: 100

رول نمبر:____________ مرکز امتحان:____________________ دستخط طالب علم:______________

دستخط نگران مرکز امتحان:____________________ دستخط ممتحن:____________________

سوال نمبر	1	2	3	4	5	میزان
حاصل کردہ نمبر						

۱۴۳۵/2014

نوٹ: 4 سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: عن ابی ذر وابی عبدالرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحہا وخالق الناس بخلق حسن۔

واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا۔

مذکورہ عبارت میں موجود منصوبات کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ (25)

سوال نمبر 2: ذکر صاحب مقامات العلماء ان الدنیا کلها مقسومة علی خمسة وعشرین قسما خمسة بالقضاء والقدرة وخمسة بالاجتهاد وخمسةبالعادة وخمسةبالجوهر وخمسة بالوراثة فاما الخمسة التی بالقضاء والقدر فالرزق ولولد والاهل والسلطان والعمر والخمسة التی بالاجتهاد فالجنة والنار والعفة والفروسية والکتابة۔

مذکورہ بالا عبارت پر اعراب لگائیں اور مبتداء اور خبر الگ کریں۔ (25)

سوال نمبر3: صح فرض ونفل فیها وکذا فوقها وان لم یتخذ سترة لکنہ مکروہ لا ساءة الادب باستعلائہ علیها ومن جعل ظهرہ الی غیر وجہ امامہ فیها او فوقهاصح وان جعل ظهرہ الی وجہ امامہ لا یصح وصح الاقتداء خارجها بامام فیها والباب مفتوح۔

عبارت پر اعراب لگائیں نیز خط کشیدہ الفاظ کی صرفی تحقیق کریں۔ (25)

سوال نمبر4: یبطل الوطن الاصلی بمثلہ فقط ویبطل وطن الاقامة بمثلہ وبالسفروبالاصلہ والوطن الاصلی هوالذی ولد فیہ او تزوج اولم یتزوج وقصد التعیش لاالارتحال عنہ ووطن الاقامة موضع نوی الاقامة فیہ نصف شهرها۔

مذکورہ عبارت پر اعراب لگائیں نیز فاعل اور مفعول الگ الگ کریں۔ (25)

سوال نمبر5: ولیت للتمنی نحو لیت هندا عندنا واجاز الفراء لیت زیدا قائما بمعنی اتمنی ولعل للتراخی کقول الشاعر ءاحب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا وشذالجر بها نحو لعل زید قائم وفی لعل لغات وعل وعن وان ولان ولعن وعندالمبرد اصلہ عل زید فیہ اللام والبواقی فروع۔

مذکورہ عبارت پر اعراب لگائیں۔ (25)

سالانہ امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: چوتھا　　مضمون: حل عبارت

تاریخ: 10-06-2015　　دن: بدھ　　وقت: 2 گھنٹے　　کل نمبر: 100

۱۴۳۶/2015

رول نمبر: ______　مرکز امتحان: ______　دستخط طالب علم: ______

دستخط نگران مرکز امتحان: ______　دستخط ممتحن: ______

سوال نمبر	1	2	3	4	5	میزان
حاصل کردہ نمبر						

نوٹ: تمام سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: خالی جگہ کو مناسب کلمات سے پُر کریں۔ (20)

(1) فعل ماضی کی کل ______ قسمیں ہیں۔ (6،5،7)

(2) نون نسوہ کا دوسرا نام ______ بھی ہے۔ (نون اعرابی، نون ضمیری، نون تاکید)

(3) اسم مفعول فعل ______ سے بنتا ہے۔ (ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول)

(4) ثلاثی مجرد سے اسم ظرف ______ وزن پر آتا ہے۔ (3،4،2)

(5) کبھی ______ کے آخر میں تاء مضمومہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے (اسم فاعل، مصدر میمی، مبالغہ)

(6) ضمیر کی ______ قسمیں ہیں۔ (4،5،6)

(7) اسم معرب کی ______ قسمیں ہیں۔ (13،15،12)

(8) مفعول مطلق کی ______ قسمیں ہیں۔ (2،3،5)

(9) حال ہمیشہ منصوب اور ______ ہوتا ہے۔ (معرفہ، نکرہ، نکرہ، مخصوصہ)

(10) جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت ______ کہتے ہیں۔ (سببی، مجازی، حقیقی)

سوال نمبر 2: اعراب لگائیں۔ (20)

لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه واله وسلم من افضل القرب واحسن المستحبات بل تقرب
من درجة ما لزم من الواجبات فانه صلى الله عليه واله وسلم حرض عليها وبالغ في الندب اليها
فقال من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني وقال من زارني بعد مماتي فكانما زارني في حياتي الى غير ذلك
من الاحاديث ومما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه واله وسلم حي يرزق ممتع بجميع الملاذ
والعبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات

سوال نمبر 3: (الف) سوال نمبر 2 میں موجود خط کشیدہ الفاظ کے وجوہِ اعراب بیان کریں۔ (10)

(ب) ترکیب نحوی کریں۔ (10)

(i) جاءني زيد حاملا رمحه　　(ii) حضرت زينب امام الاستاذ طالبة العلوم النافعة

سوال نمبر 4: سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ (20)

(1) اسم مشتق اور ہفت اقسام کے نام تحریر کریں۔
(2) ماضی معروف اور مضارع معروف بنانے کا طریقہ لکھیں۔
(3) علامات مضارع کتنی اور کون کون سی ہیں۔
(4) اسم آلہ و ظرف بنانے کا طریقہ لکھیں۔
(5) صرف صغیر اور کبیر کی تعریف لکھیں۔
(6) ضمائر منصوب متصل تحریر کریں۔
(7) غیر منصرف کب کب منصرف ہوتا ہے۔
(8) ان ناصبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟
(9) لا نہ پڑھے جانے کے 5 مقامات بغیر امثلہ لکھیں۔
(10) افعال ناقصہ تحریر کریں۔

سوال نمبر 5: مندرجہ ذیل کا صیغہ، فعل اور باب تحریر کریں۔ (20)

احرنجام اتعلی متسول لملکما اکلما افلل

رول نمبر: ______

دستخط طالبعلم: ______

سالانہ امتحان 1437ھ/2016ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ پرچہ: چوتھا مضمون: حل عبارت

تاریخ: 29-05-2016 دن: اتوار وقت: 2 گھنٹے کل نمبر: 100

مرکز امتحان: ______ دستخط نگران مرکز امتحان: ______ دستخط ممتحن: ______

سوال نمبر	1	2	3	4	5	میزان
حاصل کردہ نمبر						

نوٹ: تمام سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر1: خالی جگہ پر کریں۔ (جس جز میں ایک خالی جگہ ہے اس کا ایک نمبر، جس میں دو ہیں اس کے دو نمبر اور جس میں تین ہیں اس کے تین نمبرز ہیں۔) (20)

(1) مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی ______ اقسام ہیں۔

(2) حروف زلاقہ ______ ہیں جن کا مجموعہ ______ ہے۔

(3) نون مشدد کو ______ اور نون ساکن کو ______ کہتے ہیں۔

(4) لائے نہی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں ______ طرح کا عمل کرتا ہے۔

(5) اعداد میں فاعل کا صیغہ ______ کے لیے آتا ہے۔

(6) ثلاثی مجرد سے اسم ظرف دو وزن پر آتا ہے (1) ______ (2) ______

(7) علم نحو حاصل کرنا ______ ہے۔

(8) جس الف کے بعد ہمزہ ہو اسے ______ کہتے ہیں۔

(9) جو جمع ______ یا ______ سے بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔

(10) مضاف پر نہ ______ آتی ہے نہ ______

(11) مبنی الفاظ کل ______ ہیں۔

(12) عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اس کو ______ کہتے ہیں۔

(13) اسماء ستہ کی حالت رفعی ______ سے، حالت نصبی ______ سے اور حالت جری ______ سے آتی ہے۔

سوال نمبر2: اعراب لگائیں۔ (20)

وهو يجئ على اربعة عشر وجها نحو ضرب الى ضربنا انما بنى الماضى لفوات موجب الاعراب فيه وعلى الحركة لمشابهة الاسم وفى وقوعه صفة للنكرة وعلى الفتح لانه اخو السكون

سوال نمبر3: (الف) سوال نمبر 2 میں مذکور خط کشیدہ الفاظ کی وجہ اعراب تحریر کریں۔ (10)

(ب) ترکیب کریں۔

(1) لم تبق المشابهة بين الامر والاسم بحذف حرف المضارعة (5)

(2) حكمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا (5)

سوال نمبر5: درج ذیل صیغوں کی صرفی تحقیق بیان کریں۔ (4*5=20)

(1) خُذِی (2) اُنْصُرْنَّ (3) يَسَلُ (4) لاتَتَقَبَّلْ (5) لَنْ يَتَجَلْبَبْنَ

سوال نمبر4: درج ذیل کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ (20)

(1) یازدہ اقسام سے کیا مراد ہے۔ (2) حروف علت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟

(3) فعل ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ تحریر کریں۔ (4) جوازم مضارع کن حروف کو کہتے ہیں۔

(5) اسم آلہ صغری بنانے کا طریقہ تحریر کریں۔ (6) مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟

(7) صفت مفرد ہو تو کونسی چیزوں میں موصوف کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے؟ (8) مشار الیہ بعید کے لیے کونسے اسماء ہیں؟

(9) لا کی خبر مفرد ہو تو کس طرح آئے گی؟ (10) حال کو ذوالحال سے پہلے کب لانا ضروری ہے؟

رول نمبر: ____________

جوابی کاپی نمبر: ____________

سالانہ امتحان 1438ھ/2017ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ (8 سالہ)　پرچہ: چوتھا　مضمون: حل عبارت

تاریخ: 11-05-2017　دن: جمعرات　کل وقت: 2 گھنٹے　کل نمبر: 100

نوٹ: تمام سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: درست غلط کی نشاندہی کریں۔ (20)

(1) جو جملہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ (_____)

(2) مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ (_____)

(3) مرکب اضافی اور توصیفی بھی فاعل اور نائب الفاعل بنتے ہیں۔ (_____)

(4) مثنی تین الفاظ ہوتے ہیں۔ (_____)

(5) صلہ میں موجود ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ (_____)

(6) جو علم تین حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ (_____)

(7) اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے۔ (_____)

(8) جس مضارع پر ناصب یا جازم نہ ہو وہ منصوب ہوتا ہے۔ (_____)

(9) جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں۔ (_____)

(10) کل ضمیریں 65 ہیں۔ (_____)

سوال نمبر 2: اعراب لگائیں۔ (20)

كان سيدنا رسول الله ﷺ منقطعا عن الخلق الى الله وقد حزن على ما وجد البشر عليه من الظلم والاثم
والعبودية والضلال فانقطع الى ربه منفردا متقربا اليه فى غار حرا

سوال نمبر 3: (الف) سوال نمبر 2 میں مذکور خط کشیدہ الفاظ کی وجہ اعراب بیان کریں۔ (10)

(ب) درج ذیل جملوں کی نحوی ترکیب کریں۔ (10)

(1) انّ قردا رأى نجارا يشق خشبة　(2) اعجبنى ضرب زيد عمروا

سوال نمبر 4: مختصر جواب دیں۔ [20]

(1) مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟

(2) اسم جمع کسے کہتے ہیں؟

(3) جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟

(4) عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟

(5) کن صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے؟

(6) مفعول فیہ کسے کہتے ہیں؟

(7) فاء، عین، لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟

(8) علامات مضارع کون کون سی ہیں؟

(9) غیر ثلاثی سے اسم مفعول بنانے طریقہ تحریر کریں۔

(10) مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟

سوال نمبر 5: درج ذیل صیغوں کی صرفی تحقیق (مکمل صیغہ، اگر تعلیل ہوئی ہو تو وہ بھی) کریں۔ [20]

خَصَّمَ قَدْ اَفْلَحَ اَوْنَ كُلْ

رول نمبر: ______________

جوابی کاپی نمبر: ______________

سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء

جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی پاکستان

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: تیسرا　　مضمون: خصوصی پرچہ

تاریخ: 24-04-2018　　دن: منگل　　کل وقت: 3 گھنٹے　　کل نمبر: 100

نوٹ: تمام سوالات کا حل مطلوب ہے۔

سوال نمبر 1: (الف) خالی جگہ پر کریں۔ (20)

(1) علم صرف کا موضوع ______ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔

(2) فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے ______ سے کوئی کام طلب کیا جائے۔

(3) فعل مضارع معروف کے شروع میں ______ لگانے سے فعل نہی معروف بن جاتا ہے۔

(4) اسم مبالغہ میں ______ کا کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے رجل علامۃ، امراۃ علامۃ۔

(5) نون ______ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔

(6) جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے ______ کہتے ہیں۔

(7) فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی ______ کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔

(8) مفعول بہ بھی ہمیشہ ______ ہوتا ہے۔

(9) مفعول لہ مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا ______ ہے۔

(10) مضاف الیہ ہمیشہ ______ ہوتا ہے۔

سوال نمبر 2: درج ذیل عبارت پر اعراب لگائیں۔ (20)

ان البیت یتم بارکانہ کذالک الاسلام یتم بارکانہ وھی خمس وھذا بناء معنوی شبہ بالحسی ووجہ التشبیہ ان البناء الحسی اذا انھدم بعض ارکانہ لم یتم

سوال نمبر 3: (الف) سوال نمبر 2 کے خط کشیدہ الفاظ کی وجہ اعراب تحریر کریں۔ (10)

(ب) مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کریں۔ (10)

(1) اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم　　(2) ھی لنداء القریب والبعید

سوال نمبر 4: (الف) مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ (20)

(1) مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی کی تعریف مثال کے ساتھ تحریر کریں۔ (2) نفی جحد بلم کا لفظی عمل تحریر کریں۔

(3) صفت مشبہ کے کوئی سے 8 اوزان (بغیر مثال) تحریر کریں۔　　(4) اسم آلہ کی تینوں قسموں کی تعریفیں تحریر کریں۔

(5) بین بین قریب اور بین بین بعید کسے کہتے ہیں؟　　(6) مونث سماعی کی چار مثالیں تحریر کریں۔

(7) اعراب لفظی و تقدیری کی تعریف مثال کے ساتھ تحریر کریں۔　　(8) کوئی سے 8 اسماء استفہام مثال کے ساتھ تحریر کریں۔

(9) اَنَّ پڑھنے کے کوئی سے تین مقام تحریر کریں۔　　(10) لائے نفی جنس کے اسم کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟

سوال نمبر 5: مندرجہ ذیل صیغوں کی مکمل صرفی تحقیق کرتے ہوئے معتل صیغوں کی تعلیل بھی کریں۔ (20)

(1) نَذَرْتُمْ　(2) تَعْمَلُوْنَ　(3) تُنْفِقُوْنَ　(4) لِيُمْلِلْ　(5) لَايُكَلِّفُ

(6) نَسِيْنَا　(7) وَاعْفُ　(8) يُؤَيِّدُ　(9) يَتَوَلّٰى　(10) يَدْعُوْ

ضمنی امتحان ۱۴۳۶/2015ء

(شعبۃ الامتحان والتسجیل جامعات المدینہ للبنین دعوت اسلامی)

درجہ: ثانیہ　　پرچہ: تیسرا　　مضمون: حل عبارت

تاریخ:24-08-2015　　دن:پیر　　وقت:2گھنٹے　　کل نمبر: 100

۱۴۳۶/2015

رول نمبر:__________ مرکز امتحان:__________ دستخط طالب علم:__________

دستخط نگران مرکز امتحان:__________ دستخط ممتحن:__________

سوال نمبر	1	2	3	4	5	میزان
حاصل کردہ نمبر						

نوٹ: تمام سوالات کا حل مطلوب ہے

سوال نمبر1: خالی جگہ پر کریں؟ (20)

(1) واحد کے آخر میں________لگادینے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔

(2) مضاف پر نہ________آتی ہے نہ________

(3) ہر صفت________میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔

(4) جو عامل پڑھنے میں آئے اسے________کہتے ہیں۔

(5) علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے________ہے۔

(6) بیت سہ اقسام میں________ہے۔

(7) اگر کلمے میں حروف اصلیہ پانچ ہوں تو اسے________کہتے ہیں۔

(8) اگر کلمے میں دو حروف ملے ہوئے ہوں تو اس کلمے کو________کہتے ہیں۔

(9) کبھی اسم آلہ________کے وزن پر بھی آتا ہے۔

سوال نمبر2: اعراب لگائیں۔ (20)

بنی الماضی علی الحرکۃ لقلۃ مشابھتہ لہ. و بنی الامر علی السکون لعدم مشابھتہ للاسم

وزیدت الالف والواو والنون فی آخرہ حتی یدل للن علی ھما و ھمو و ھن

سوال نمبر3: (الف) سوال نمبر 2 میں مذکورہ خط کشیدہ الفاظ کے وجوہ اعراب تحریر کریں؟ (10)

(ب) درج ذیل جملوں کی ترکیب کریں؟ (10)

(i) ان الصراف یحتاج فی معرفۃ الاوزان

(ii) الضرب المصدر یتولد منه الاشیاء التسعة

سوال نمبر4: درج ذیل کے مختصر جوابات تحریر کریں؟ (20)

(1) جوازم مضارع کتنے اور کون کونسے ہیں؟ (2) مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟

(3) مستثنی مفرغ کے کہتے ہیں؟ (4) صفت سببی کسے کہتے ہیں؟

(5) حروف عاطفہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ (6) اسم تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ تحریر کریں۔

(7) اسم آلہ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ صرف نام تحریر کریں۔ (8) صرف صغیر کسے کہتے ہیں؟

(9) اسم مبالغہ کی تعریف کریں۔ (10) ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ تحریر کریں۔

سوال نمبر5: درج ذیل صیغوں کی صرفی تحقیق (صیغہ، باب، سہ اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، تعلیل) تحریر کریں۔ (20)

(1) خذ (2) لیتما مانصرتن (3) منتصار (4) ما انصرة (5) ایمان


صرف میں پختگی حاصل کرنے کیلئے نہایت مفید رسالہ
بنام
صیغوں کی صرفی تحقیق
[پارہ ۱ تا ۳]
(غیر حل شدہ)
از:
مولانا وارث قادری


صرف میں پختگی حاصل کرنے کیلئے نہایت مفید رسالہ
بنام
صیغوں کی صرفی تحقیق
[پارہ ۱ تا ۳]
(حل شدہ)
از:
مولانا وارث قادری


درس نظامی کے طلباء کیلئے یکساں مفید رسالہ
بنام
بهار العربية
فی حل تمارین
المطالعة العربية
از:
مولانا وارث قادری

علم نحو کے ابتدائی طالب علم کیلئے انتہائی آسان انداز میں مختصر رسالہ
بہار نحو
حصہ اول
از:
مولانا وارث قادری

علم صرف کے ابتدائی طالب علم کیلئے انتہائی آسان انداز میں مختصر رسالہ
بہار صرف
حصہ دوم
از:
مولانا سید حمزہ علی قادری


علم نحو کے ابتدائی طالب علم کیلئے انتہائی آسان انداز میں مختصر رسالہ
بہار نحو
از:
مولانا وارث قادری